

# اسلامی زندگی

از

نصر اللہ خاں عزیز

مدیر ایشیا لاہور

طابع

ادارہ خواتین، اچھرہ، لاہور

✓ ۲۹۷۶۰۷

۱۷۷۷

۱۷۷۷

DATA ENTERED

عبد الوحید خان  
ناظم ادارہ خواتین نے کورٹ پر سی لاہور  
میں چھوڑ کر دفتر ادارہ خواتین اچھرہ لاہور  
شائع کیا

بار اول ۱۹۵۶ء ۱۱۰۰

قیمت :- دو روپے چار آنے

DATA ENTERED

# DATA ENTERED

## فہرست

### ۱۔ عقائد و عبادات کا

مشرط ایمان	محاسبہ آخرت کا خوف	اخلاص فی اللہ
عبودیت کا احساس	خوف آخرت	عقائد کی صحت
توحید و اخلاص	عبادت	اخلاص نیت
اخلاص فی اللہ	ناز کی اہمیت	ختم نبوت
شکر الہی	ناز کا اہتمام	خوف آخرت
	محاسبہ آخرت	

### ۲۔ اخلاق و معاملات کا

اخلاص	مساوات	تلاوت قرآن سے شغف
رضائے الہی	اکل حلال	سلام کرنا


آرزو کی پاکیزگی	دیانت	دشمنوں سے محبت
توکل علی اللہ	انفاق فی سبیل اللہ	سچائی
تقویٰ	نفس کے اسباب تباہی	شرم و حیا
دل کی اہمیت	سخاوت	شرافت اخلاق
عفو و درگزر	اثار و قربانی	خوش اخلاقی
عفو و حلم	فرض شناسی	اچھا سلوک
صبر و تحمل	خراست و حسن تدبیر	پابندی عہد
اصلاح نفس	دانائی	مال باپ کی خدمت
انکسار	دنیا پر دین کو ترجیح	صحبت بد سے اجتناب
شہرت سے پرہیز	عیب پوشی	خفاکشی
	توت خفاظہ	استقامت

### ۳۔ حکومت و سیاست ۹۳

اطاعت رسول	اسلامی حکومت کی خصوصیات	نفاذ احکام اسلام
حضرت عمر کا ایک خطبہ	اسلامی حکومت کے اثرات	تسلیح اسلام
شوق جہاد	رعایا کی خیرگیری	صلح و صفائی
احساس ذمہ داری	رعایا کے حقوق کی دستاویز	مسلمانوں میں صلح کرانا

منصبِ نہدہ سے احتراز      خیریت خلق      بے لاگ عدل  
 اجتنابِ حکام      اعترافِ خدمات      عدل پروری  
 اعمال کا اجتناب      اسلامی حکومت میں ذمیوں کی حالت      عدل و مساوات  
 اجتناب      آزادی رائے      عدل و انصاف  
 فاسق قیادت سے بیزاری      سلیبیٹ ایکٹوں کا عدم جواز      حق پسندی  
 ظالموں سے بیزاری      قومی عصبيت سے احتراز      حق گوئی  
 ظالمین تعاون سے اجتناب      قتل مسلم سے اجتناب      حق گوئی و بے باکی  
 مصارفِ حکومتیں کفایت بخاری      خون مسلم کا احترام      حق پسندی  
 حسن انتظام      احترامِ مسلم      جرات و بے باکی  
 استقلال و استقامت      سلاطین سے اجتناب





## آفتاب

اس آفتاب ہدایت کے نام جس کی روشن کرنوں سے اسلامی زندگی کا گوشہ گوشہ روشن ہوا اور نوع انسانی نے صحیح پاکباز اور کامیاب زندگی بسر کرنے کا راز پایا۔ اس رسول برحق کے نام جس کے لائے ہوئے پیغام سے میں نے راہ حق پائی اور جس کی پاک سیرت کا ایک ایک واقعہ زندگی کے سفر میں میرے لیے سنگ میل ثابت ہوا۔ جس کی راستبازی کے چشے سے میں نے راستبازی کے ساغر پئے جس کے عضو و حلم سے میں نے عضو و حلم کا درس پایا۔ جس کی استقامت سے میری لغزشیں پاکو سکون ملا۔ جس کے جہادِ حق

نے مجھے کلمہ حق کی توفیق دی، اور جس کی مبارک سیرت نے میری غم آلود  
زندگی کو فرح و نشاط بخشا۔ جس کی محبت میرا سرمایہ زندگی اور جس کی پیروی  
میرے لیے باعث نجات ہے،

صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین

خاکپائے مصطفیٰ  
نصرتخان عزیز



## تعارف

”عملی مثال تلقین سے بہتر ہے“ یہ ایک مشہور ضرب المثل ہے اور انسانی فطرت کے ایک عام پہلو پر مبنی۔ بہت سی باتیں جو سمجھ میں نہیں آتیں، عملی مثال سے دل میں اتر جاتی ہیں۔ اور بہت سے کام جن کے کرنے کی ہمت انسان اپنے میں نہیں پاتا دوسروں کو کرتا ہوا دیکھ کر انہیں کر ڈالتا ہے۔ انسانی فطرت جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کا یہی بنیادی پہلو ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے کتاب کے پہلے نبی کو پیدا کیا۔ اور نبی نے خدا کا پیغام پہنچانے سے پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عنوان سیرت ہے جو دعوت اسلامی کی سیرت انگیز کامیابی کا موجب ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی شخص نے پوچھا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟“ ام المومنین نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کیا ”ام المومنین پڑھا ہے۔“ ارشاد ہوا۔

میں میرے حبیب کی زندگی وہی تھی جو قرآن کی ہے یعنی اللہ کی کتاب کا  
 علی پیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اسلام کا پیغام جس عہد زمانے اور  
 ماحول میں دیا گیا اس میں وہ مطلقاً بالکل ناقابل عمل تھا۔ لیکن جب تو رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک ایک حرف پر عمل کر کے دکھا دیا تو صحابہ  
 جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس پیغام پر ایمان لائے تھے اس پر نہایت  
 آسانی سے عمل پیرا ہو گئے۔ اسلام کی تعلیمات جیسے جیسے نازل ہوتی گئیں  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے وجود میں اس کی عملی تعبیر مہیا ہوتی گئی  
 عقائد عبادات اخلاق عادات پر معاملے میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 اسوہ حسنہ بنے اور پھر آپ کے اتباع میں آپ کے دوست اس راہ پر گامزن  
 ہو گئے۔ یہاں تک کہ دعوت حق کی مخالفت کے باعث پیروان حق پر جو  
 مصائب نازل ہوئے ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کے حصہ دار  
 تھے اور استقامت و ثبات قدم میں سب سے آگے۔ اور پھر اسی صورت حال  
 کا نتیجہ تھا کہ ۲۳ برس کے عرصے میں ایک مکمل ریاست اسلام کی تعلیمات پر  
 قائم ہو گئی اور اس کو ایسی رعایا مل گئی جس کا ہر فرد اس ریاست کے اصول نظام  
 تمدن معاشرت، سیاست اخلاق اور ثقافت کا منظر تھا۔ اس ریاست کے  
 ساتھ جس طرح اس کی رعایا ہم آہنگ تھی اتنی ہم آہنگ رعایا تاریخ انسانی  
 میں کسی ریاست کی نہیں ملتی۔

پھر جو شخص حق اس طرح روشن ہوئی تھی وہ تھوڑے ہی عرصے میں سمجھ نہیں گئی، بلکہ آج تک اس کی کمریوں سے معاشرہ پر نور ہے اور بعد کے ادوار میں بھی اسلامی زندگی کے عملی پیکر موجود رہے ہیں جو اپنی عملی مثال سے بتاتے رہے ہیں کہ اس زندگی کے اصول کیا ہیں۔ ان پر عمل کس طرح کیا جاتا ہے تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اب حالات بدل گئے ہیں۔ زمانہ بگڑ گیا ہے۔ ماحول خراب ہو گیا ہے۔ اب اسلامی زندگی بسر کرنا ممکن نہیں رہا بلکہ سرورہ میں سہ انسانیستی میں ایسے افراد کم و بیش موجود رہے ہیں جنہوں نے اسلامی زندگی بسر کر کے ثابت کر دیا کہ یہ زندگی نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ یہی زندگی پاکیزہ بلند اور کامیاب بھی ہے۔

قرآن مجید سے بہتر کوئی کتاب ہدایت نہیں لیکن اس کی تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عمل کر کے نہ دکھاتے تو یہ کتاب ہدایت محض ایک کتاب قانون ہوتی۔ اور اگر تابعین اور تبع تابعین اور بعد کے صحابائے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریق عمل پر کار بند نہ ہوتے تو ہمیں اس امر کا کبھی یقین نہ ہو سکتا، کہ اسلامی زندگی بسر زمانے میں بسر کی جا سکتی ہے۔ خود خلاق فطرت نے بھی اسی راز فطرت کی بنا پر قرآن مجید میں انبیاء و صالحین مومنین کے حالات و واقعات جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں، اور

لقد كان في قصصهم عبرة الأولى الألباب کی سردی حقیقت کا اعلان فرمایا ہے۔ زندگی کی اس بنیادی حقیقت ہی کا احساس و شعور تھا کہ جب سے میں اقامت دین کی تحریک میں شامل ہوا میرے دل میں ہمیشہ یہ خیال رہا کہ ایک ایسی کتاب مرتب کرنی چاہیے جس میں اسلامی زندگی کے حدود و حال کو تشریح و بسط کے ساتھ بیان کیا جائے مگر اس کا انداز تلقین و تعلیم کا نہ ہو بلکہ عمل و اسوہ کا ہونا کہ جو شخص اسلامی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے وہ عملی طور پر دیکھ لے کہ اس کے حیل القدر پیش رووں نے اس زندگی کے مختلف پہلوؤں کو کیا سمجھا اور ان پر کس طرح عمل کیا یہ گویا اسلامی زندگی کی منزل کے مسافر کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے چلنا ہوگا۔ دور سے صرف نشانات منزل بتا دیتا ہوگا۔

لیکن سالہا سال تک یہ خیال ایک خیال ہی رہا۔ اخبار نویسی کی روزمرہ کی مصروفیتوں نے اجازت ہی نہ دی کہ اس مقصد کے لیے قلم اٹھاؤں۔ یہاں تک کہ کارساز قدرت نے فراغت و مہلت کا سامان فرم کر دیا یعنی ۲۸ مارچ ۱۹۵۳ء کو جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ مجھے بھی مارشل لاء کے ذریعے قید و بند کا فرار نصیب ہوا۔ اور ایک ایسا گوشہ عاقبت حاصل ہوا جس میں بیٹھ کر مطالعہ بھی کیا جائے اور حسب منشاء تصنیف و تالیف کا کام بھی کیا جائے۔ پھر کارساز کریم نے محض گوشہ زندگی

کی آسودگی ہی نہیں بخشی بلکہ ایسے رفقائے زرداں عطا فرمائے جن کی رفاقت  
 قید و بند کو سیر چمن سے زیادہ خوشگوار بنانے والی اور جن کی موجودگی قلب  
 و روح کی بالیدگی کا سامان تھی یعنی ایک سال تک مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی  
 کی ہمراہی کا شرف حاصل رہا اور ان کے فیضانِ علمی سے سیراب ہونے کا  
 موقع ملا۔ اسی دوران میں میں نے مولانا سے پیش نظر کتاب کے تصویب کا تذکرہ  
 کیا۔ مولانا نے اس کو پسند کیا۔ اور میں نے سیرت و تاریخ کی کتابیں منگا کر کوئی  
 چالیس پچاس صفحات لکھ کر عشاء کی نماز کے بعد جب کہ مولانا سوتے کے لیے  
 لیٹر پر دراز ہوئے ان کی خدمت میں پیش کئے۔ مولانا ان کو دیکھتے رہے  
 اور میں حسب معمول چند منٹوں میں سو گیا۔ صبح کو اٹھا تو مولانا نے مسودہ یہ  
 کہہ کر واپس کر دیا کہ وہ اسے رات کو ختم ہی کر کے سوتے تھے۔ مولانا نے  
 اس کے انداز کو بھی پسند کیا اس سے مجھے اور حوصلہ ہوا اور میں فراغت کے  
 اوقات میں اس کی تسوید و تحریر میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ کئی سو صفحات  
 کی ایک کتاب مرتب ہو گئی۔

یہ ہے داستان اس تالیف کی۔ میں نے اسے صرف اس غرض سے مرتب  
 کیا ہے کہ اسلامی زندگی کے مسافرانِ حق اس کے نشانات پر اپنی منزلِ حیات  
 طے کرنے کے لیے بہت اور رہنمائی حاصل کریں اور ان کے اس حسن عمل سے  
 مجھے بھی ثواب ملے اور میرے نامہ اعمال کی سیاہی بھی ان کے نقوشِ پائے

زائل ہو جائے۔

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب  
الرحيم ربنا اغفر لنا ذلونا وكفرنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا  
وانما ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيمة انك لا تخلف الميعاد  
وصل على رسلك خير خلقك محمد وآله واصحابه اجمعين ، امين

نصر اللہ خال عزیز

۶ نومبر ۱۹۵۵ء

عقائد و عبادات





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## شہرِ ایمان

حضرت مسلم بن یسار، حضرت طلحہؓ کے غلام تھے اور انہی کے فیضِ صحبت سے اسلام اور ایمان کے حقیقت شناس بھتے۔ فرمایا کرتے تھے، کہ

”ایمان باللہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ

آدمی ان تمام باتوں کو ترک کر دے جو اللہ کو ناپسند ہیں۔

میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بندے کا ایمان کس کام کا ہے اگر وہ خدا کی ناپسندیدہ باتوں کو نہیں چھوڑتا“

## عجیبیت کا احساس

حضرت میمون بن مہران کوفہ میں ایک ازادی عورت کے غلام تھے۔ پھر

آزاد کر دیے گئے اور علم و فضل سے بہرہ مند ہو کر حکومت کے بڑے  
 بڑے عہدوں پر مہر فراز ہوئے۔ وہ اعتدال سے زیادہ ناز روزہ نہیں  
 کرتے تھے۔ مگر خدا کی معصیت میں مبتلا ہونا انہیں سخت ناگوار تھا۔ وہ  
 فرماتے تھے تو حید اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک شرک کی نفی نہ ہو۔  
 ان کے صلاح و تقویٰ کی وجہ سے لوگ ان کا بے حد احترام کرتے تھے  
 ایک شخص نے ان سے کہا :

”ابو یوسف جب تک خدا آپ کو زندہ رکھے گا، لوگ کھلائی پر  
 قائم رہیں گے۔“

حضرت مہمون نے اس بات کو سخت ناپسند کیا اور فرمایا :  
 ”اس قسم کی بات نہ کہو۔ لوگ اس وقت تک کھلائی پر قائم  
 رہیں گے جب تک اپنے رب سے ڈرتے رہیں گے۔“



## توحید و اخلاص

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے فیصلے کے لیے جو مقدمات پیش تھے  
 وہ ان کو نمٹا کر اٹھے اور دوسرے امور سلطنت میں مشغول ہو گئے انہیں  
 ایک شخص آیا اور عرض پر وازہ ہوا کہ امیر المومنین اہل انصاف نے مجھ پر ظلم کیا ہے

مجھے انصاف دلوانی ہے اور میرے مقدمے کا فیصلہ فرمائیے۔  
 امیر المؤمنین اس وقت دوسرے کام میں مصروف تھے لہذا وقت مداخلت  
 سمیت ناگوار گزری اور انھوں نے کوڑا اٹھا کر اس شخص کے سر پر دسے مارا  
 اور کہا:

”جیب میں فصل مقدمات کے لیے بیٹھا ہوں تو تم لوگ نہیں آتے  
 اور جیب مسلمانوں کے دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہوں تو  
 دہائی دیتے ہوئے آجاتے ہو اور کام کا حرج کرتے ہو۔“  
 سائل ناراض ہو کر چلا۔ ابھی وہ چند قدم ہی گیا تھا کہ حضرت عمر نے اس کو  
 بلایا اور کوڑا اس کے سامنے ڈال کر کہا:

”لو بدلہ لے لو۔ جس طرح میں نے تمہیں کوڑا مارا تم بھی مار لو۔“  
 ”امیر المؤمنین، میں خدا کے لیے اور آپ کے لیے معاف کرتا ہوں۔“  
 اس شخص نے عرض کیا۔

”نہیں نہیں، اس طرح نہیں۔ یا تو خدا کے لیے معاف کرو یا میرے لیے  
 فاروق اعظم نے کہا۔“

”میں صرف خدا کے لیے معاف کرتا ہوں اس آدمی نے عرض کیا۔“

# اخلاص فی اللہ

حضرت ربیع بن خلیثم سرخس کے رہنے والے تھے۔ ابتدا میں غلام تھے  
آزاد ہو کر بصرہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ پھر علم کی طرف توجہ کی اور مسلمانوں  
کے امام اور آقا ہو گئے۔ ہر کام اللہ کے لیے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انھوں  
نے اپنے گھر والوں سے ایک خاص کھانے کی فرمائش کی چونکہ وہ اپنے لیے  
کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ان کی بیوی نے بڑے  
اتہام سے وہ کھانا تیار کیا۔ حضرت ربیع نے کھانا لیا اور پڑوس میں جو ایک  
دیوانہ رہتا تھا اس کو اپنے ہاتھ سے جا کر کھلا آئے اس کے منہ سے لعاب  
بہ رہا تھا اور وہ اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہے تھے۔ واپس آئے  
تو بیوی نے کہا تم نے کھانا لے جا کر ایک ایسے شخص کو کھلا دیا جو یہ بھی نہیں  
جانتا کہ اس نے کیا کھایا۔ آپ نے جواب دیا — "خدا تو جانتا ہے۔"

○  
شکر الہی

مومن ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے اور حیب وہ کامیابی حاصل کرتا ہے

تو اس پر فخر کرنے اور اسے اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھنے کی بجائے اندر ہی کی بارگاہِ قدس میں سجدہ شکر بجالانا ہے۔

جنگ یرموک اسلامی تاریخ جہاد میں نمایاں ترین مقام رکھتی ہے۔ رومی فوجیں بڑے جوش سے میدان میں نکلی تھیں اور ہزار ہزار جنگجوؤں نے توفیح یاموت کی قسم کھالی تھی اور پاؤں میں بیڑیاں پہن لی تھیں کہ بھاگنے کا خیال تک نہ آئے۔

ہزاروں پادری اور لشیپ ہاتھوں میں صلیب لیے آگے آگے تھے، اور حضرت مسیح کا نام لے کر جوش دلاتے تھے۔ بالآخر بڑے معرکے کا رن پڑا۔ مگر رومیوں کا یہ تمام ساز و سامان مجاہدین کے جوش ایمانی کے سامنے بے کار ثابت ہوا۔ ان کا توکل اور صبر و ثبات رومی سزائم کو بہا کر لے گیا اور عیسائیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ایک لاکھ کے قریب رومی کھیت رہے۔ حضرت عمرؓ کو اس فتح مبین کی اطلاع ملی تو سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کیا۔

فتوحات کا شکر ادا کرنے اور ان پر مسرت کا اظہار کرنے کا یہی اسلامی طریقہ تھا۔ وہ لہو و لعب اور فسق و فجور کے مظاہروں سے کامیابوں کی خوشی نہیں بناتے تھے۔

# عقائد کی صحت

صحت عقائد ایمان کی بنیاد ہے۔ سلف صالحین اس معاملے میں سخت احتیاط برتتے تھے۔

حضرت ابراہیمؑ سے ایک شخص نے درخواست کی کہ ابو عمران دعا کیجئے خدا مجھے شفاء دے۔ فرمایا۔ ایک شخص نے حضرت حذیفہؓ (صحابی) سے دعائے مغفرت کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے جواب میں کہا۔ خدا تمہاری مغفرت نہ فرمائے۔ یہ سن کر وہ شخص ان کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت حذیفہؓ نے دعا کی خدا تم کو حذیفہ کا مقام عطا کرے۔ پھر اس شخص سے پوچھا اب تو تم راضی ہو۔ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا بعض لوگ اس خیال سے بعض اشخاص کے پاس جاتے ہیں گویا اس نے تمام مراتب حاصل کر لیے ہیں۔ اور وہ کوئی بلند اور مقبول بارگاہِ ربیٰ بن گیا۔ مقصد یہ تھا کہ بندے کو براہِ راست خدا سے خود دعا کرنے کی عادت ڈالنی چاہئے۔ یہ سمجھنا کہ دوسرے شخص خدا کی جناب میں ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اس کی دعا لازماً مان لی جائے گی۔ خواہ خدا کو پسند ہو یا ناپسند۔ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ بہر حال بندے پر سب سے زیادہ مہربان ہے اگر وہ بندے کی دعا قبول کرنا چاہتا ہے تو قبول فرمائے گا۔ کسی اور کی سفارش کو

یا نہ ہو۔

## اخلاص نیت

کونے کے ایک رئیس ابو احمد تفریح کرتے ہوئے ایک باغ میں  
جانکے۔ باغ کی حفاظت کرنے والا غلام روٹی کھا رہا تھا۔ اس کے سامنے  
ایک کتا بیٹھا تھا۔ غلام ایک لقمہ خود کھاتا اور اناہی بڑا ایک لقمہ ناپ کے  
کتے کو دیتا۔

ابو احمد نے کہا "تو نہیں اس کتے سے بڑی محبت ہے۔"  
"نہیں جناب! یہ ایک اجنبی کتا ہے۔ مجھے روٹی کھانا ہوا دیکھ کر بھوکے  
مارے سامنے بیٹھ کر ہانپنے لگا، میں نے سوچا کہ خدا کی مخلوق بھوک  
بلبھی رہے اور میں شکم سیر ہو کر کھاؤں۔ غلام نے جواب دیا۔  
"مگر تم لقمے ناپ ناپ کر کپوں سے رہے تھے؟" ابو احمد نے تعجب سے پوچھا۔  
"میں نے دل میں نیت کی تھی کہ ادھی خود کھاؤں گا اور ادھی کتے کو دوں گا  
اگر لیے ناپ کر لقمے اٹھاتا ہوں تاکہ میری نیت کے خلاف نہ پڑے اور احمد لغال  
کی گرفت میں نہ آؤں۔" اخلاص نیت کے راز اشنائے جواب دیا۔

## شکم نہایت

حضرت عمر بن عبدالعزیز جب سریر آرائے خلافت ہوئے تو سب سے پہلا

کام یہ کیا کہ لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور کہا کہ ”مجھے میری مرضی کے خلاف خلیفہ نامزد کر دیا گیا ہے۔ میں اپنی بیعت کا قلاوہ تمہاری گردنوں سے اتارنا ہوں اور تم کو حق دیتا ہوں کہ جس کو چاہو خلیفہ منتخب کر لو“ مگر پوسے مجمع نے ایک زبان ہو کر کہا ہم نے آپ کو خلیفہ منتخب کیا ہے۔ آپ خدا کا نام لے کر کام شروع کر دیجئے۔

جب ان کی خلافت پر سب کا اتفاق ہو گیا تو آپ نے ایک مفصل تقریر کی اور اس میں اطاعت امیر اور لوگوں کے فرائض اطاعت کی وضاحت کی، آپ نے حمد و تعنت کے بعد فرمایا۔

”تمہارے نبی کے بعد دوسرا نبی نہیں اور اس پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں۔ خدا نے جو چیز حلال کر دی وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے اور جو حرام کر دی وہ قیامت تک حرام رہے گی، میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں بلکہ صرف احکام الہی کو نافذ کرنے والا ہوں۔ میں خود کوئی بات مشروع کرنے والا نہیں ہوں بلکہ صرف پیرو ہوں، کسی کو حق نہیں کہ خدایا کی نافرمانی میں اس کی اطاعت کی جائے۔ میں تمہاری جماعت کا بہتر آدمی بھی نہیں بلکہ معمولی فرد ہوں، البتہ خدا نے مجھ کو تم سے زیادہ گرانبار کر دیا ہے“



## خوفِ آخرت

حضرت ابو بکرؓ نے ایک سرسبز درخت کو دیکھا اور کہنے لگے۔  
 ”کاش میں درخت ہوتا کہ عاقبت کی ذمہ داری سے چھوٹ جاتا۔“  
 یاغ میں پرندوں کو چھپاتے دیکھا۔ آہ سردیخ کر فرمایا۔  
 ”پرندو تمہیں مبارک ہو کہ مزے سے چھگتے پھرتے ہو۔ اڑتے پھرتے  
 ہو۔ درختوں کی شاخوں میں بیٹھتے ہو۔ اور قیامت میں تمہارا کوئی حساب کتاب  
 نہیں کاش ابو بکرؓ تمہاری طرح ہوتا۔“

## محاسبہِ آخرت

حضرت ابراہیم بن یزید تمیمی ایک ممتاز تابعی اور کوفہ کے علمائے باکمال میں  
 سے تھے۔ ان کے والد یزید تمیمی ایک امیر آدمی تھے مگر اس کے باوجود وہاں  
 سادہ لباس میں رہتے تھے ایک روز ابراہیم نے ان سے کہا،  
 ”اباجان یہ آپ نے روٹی کا معمولی کرتا زیب بدن کر رکھا ہے، خدانے  
 آپ کو کافی دولت دی ہے کوئی قرینے کا لباس کیوں نہیں پہن لیتے؟“  
 والد نے جواب دیا:

”بتیاجیب میں بصرہ آیا تو ہزاروں پیدا کئے مگر میری خوشی میں کوئی اضافہ نہ ہوا۔ اس لیے لباس میں میرے لیے مسرت کا کوئی سامان نہیں۔ میں تو محاسنہ آخرت سے ڈرتا ہوں۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوذر دعو سے سنا ہے کہ قیامت کے روز ایک درہم رکھنے والے سے زیادہ دو درہم رکھنے والے سے حساب ہوگا۔“

## محاسنہ آخرت کا خوف

محاسنہ آخرت کا خوف و اندیشہ اسلامی زندگی کی بنیاد ہے۔ یہی ایک اندیشہ ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی اپنی زندگی کا کردار درست رکھتا ہے اور قرآن و حدیث کی زندگی کو خدا کے احکام کے مطابق ادا کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا:

”تم کو معلوم ہے کہ امور خلافت میں مجھ سے سوال کیا جائے گا اور خدا مجھ سے حساب لے گا اور میں اپنا کوئی کام اس سے چھپاؤں سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَلْيَقْصِرْ عَلَيْكُمْ فِعْلَهُمْ وَمَا كُنَّا بِمُنْذِرِيكُمْ مِنْهُ انْ كُنْتُمْ

علم کی تیار پر بیان کریں گے اور ہم غائب نہیں ہیں)۔  
 اگر میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو گیا تو میں کامیاب ہوا اور ایک  
 طویل عذاب سے نجات پا گیا۔ اگر وہ مجھ سے ناراض ہو تو افسوس  
 ہے میرے انجام پر میں اس عذاب سے جس کے سوا کوئی عذاب نہیں دعا  
 کرتا ہوں کہ مجھے اپنی رحمت سے نوازے اور عذاب سے نجات  
 دے۔ اور اپنے فضل و کرم سے جنت عطا کرے۔  
 تم کو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے اور رعایا کا خیال رکھنا چاہیے...  
 حماسیہ آخرت ہی کا یہ خوف تھا جس کے باعث عمر بن عبدالعزیز کی زندگی  
 میں انقلاب رونما ہوا اور انھوں نے حکومت و سلطنت میں ایک صالح اور  
 پاکیزہ انقلاب رونما کیا یہاں تک کہ لوگوں کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ  
 کا دور خلافت یاد آ گیا۔

## خوف آخرت

حضرت زین العابدین ایک روز نماز پڑھ رہے تھے سجدے میں تھے کہ  
 کہیں پاس ہی آگ لگ گئی لوگوں نے آپ کو بھی پکارا اور کہا اے ابن رسول  
 آگ لگی، ابن رسول آگ لگی۔ لیکن آپ نے سر نہ اٹھایا۔ یہاں تک کہ آگ

بجھادی گئی۔

لوگوں نے پوچھا "آپ کو آگ کی طرف سے اس قدر بے پروا کس چیز نے  
کر دیا؟"

"دوسری آگ (آتش دوزخ) تھی" حضرت امام نے جواب دیا

## عبادت

حضرت سعید بن مسیب نماز باجماعت میں اتنا اتمام ملحوظ رکھتے تھے کہ  
چالیس سال اور ایک روایت کے مطابق پچاس برس تک ایک وقت کی نماز  
باجماعت بھی ناعہ نہ ہوئی۔ ہمیشہ وقت پر مسجد پہنچتے اور کبھی ایسا نہ ہوا کہ  
لوگ نماز تمام کر کے واپس جا رہے ہوں اور وہ مسجد میں پہنچیں۔

اس اتمام عبادت کے باوجود جب ان کے غلام پر دسے بعض آدمیوں سے  
ان کی کثرت، عبادت کا تذکرہ کیا تو فرمایا:

"پروردگار کی قسم یہ عبادت نہیں ہے عبادت الہی کہتے ہیں امور الہی میں  
غور کرنے اور اس کے محارم دین امور سے اس نے منع کیا ہے اسے بچنے کو"

## ناز کی اہمیت

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز مصر کے گورنر تھے۔ انھوں نے اپنے لڑکے عمر کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے مدینہ حضرت صالح بن کيسان کی نگرانی میں دے دیا تھا۔ یہ صالح بن کيسان کا فیضان تربیت تھا کہ نبی امیہ کے خاندان سے ہیں وہ فاروق ثانی پیدا ہوا جس نے خلافت راشدہ کو از سر نو زندہ کر دیا۔ صالح بن کيسان نے کس اہتمام سے ان کی تربیت کی، اس کا اندازہ اس کے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز نے ناز میں دیر کر دی :

”تم نے آج ناز میں دیر کیوں کر دی؟ خدا پرست استاد نے باز پرس کرتے ہوئے پوچھا،

”بال سنوار رہا تھا اس لیے ذرا دیر ہو گئی۔“ شاگرد نے ادب سے جواب دیا۔

”اچھا، اب بالوں کی آرائش میں اتنا شغف ہو گیا ہے کہ اس کو ناز پر ترجیح دی جاتی ہے؟“ شفیق استاد نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔

اس کے بعد ان کے والد کو استاد نے یہ واقعہ لکھ بھیجا۔ عبدالعزیز کو یہ معلوم ہوا تو ابی وقت ایک آدمی کو مصر سے مدینہ روانہ کیا جس نے آکر سب سے پہلے ان کے سر کے بال مونڈے اس کے بعد کسی سے بات چیت کی کہ عمر کے والد کا یہی حکم تھا۔

حسن تربیت کا یہی اہتمام تھا جس نے اموی خاندان کے ایک ناز پرورد  
 شہزادے کو "حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ" بنا دیا جن کے متعلق  
 امام احمد بن حنبل کی رائے ہے کہ وہ پہلی صدی کے مجدد تھے۔

## ○ نماز کا اہتمام

حضرت اسود بن یزید ایک ممتاز تابعی عالم اور بزرگ تھے۔ نماز ہمیشہ اول  
 وقت ادا کرتے۔ نماز میں اس قدر اہتمام تھا کہ خواہ کسی کام اور کسی حالت میں بھی  
 ہوتے نماز کا وقت آتے ہی سب کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے  
 ان کے ہم سفر ہمسرا ہیوں کا بیان ہے کہ سفر کی حالت میں کیسے ہی دشوار گزار  
 رستے سے جا رہے ہوں، نماز کا وقت آئے پر سواری روک کر نماز ادا کرتے۔  
 تب آگے بڑھتے۔

## ○ اخلاص فی اللہ

حضرت نافع بن کاؤس ایک عجمی غلام تھے اور آخر میں کسی طرح حضرت  
 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ابن عمر نے ان کی

تعلیم و تربیت میں بے حد اہتمام کیا اور نافع اپنے ہمد کے ممتاز ائمہ حدیث میں ہو گئے۔

ان کے کمالات کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ ان کو بے حد محبوب رکھتے تھے۔ غلامی کے زمانے میں لوگوں نے ان کی گراں قدر رقمیں پیش کیں مگر ابن عمر ان کو علیحدہ کرنے پر راضی نہ ہوئے۔ عبداللہ بن عمر نے ۱۲ ہزار کی رقم پیش کی۔ ابن عامر نے کہا میں تیس ہزار دیتا ہوں۔ لیکن ابن عمر نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے برعکس انھوں نے جواب دیا مجھے خوف ہے کہ ابن عامر کے روپے کہیں مجھے آزمائش میں نہ ڈال دیں اور نافع کو آزاد کر دیا اور دیوبند کی دولت چھوڑ کر خدا کی رضا حاصل کر لی۔





# اخلاق و معاملات



## اخلاص

مسلمان جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، عامر بن عبد اللہ غبری جہاد کی ایک مہم میں شریک ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور جنگ میں ایک بڑے ممتاز دشمن کی لڑکی ہاتھ آئی لوگوں نے اس لڑکی کے اوصاف بیان کئے عامر نے تعریف سن کر کہا "میں بھی مردہوں پر لڑکی مجھے دے دو۔ ان کے زینہ و القاء کے باعث ان کی اس غیر متوقع خواہش پر لوگوں نے لڑکی ان کے حوالے کر دی۔ جب لڑکی ان کے قبضے میں آگئی تو انھوں نے لڑکی سے کہا "میں تمہیں خدا کے لیے آزاد کرتا ہوں" لوگوں کو معلوم ہوا تو کہا:

"یہ آپ نے کیا غضب کیا اتنی صاحب اوصاف لڑکی کو آزاد کر دیا اس کے بدلے میں کوئی دوسری نوٹھی آزاد کر سکتے تھے"

"میں اپنے رب سے ثواب چاہتا ہوں" عامر بن عبد اللہ نے جواب دیا۔

○

## رضائے الہی

رضائے الہی کے حصول کی تڑپ مردوں ہی میں، نہیں مسلمان خواتین بھی

اسی جذبے سے سرشار تھیں۔ قبیلہ بنی ریاح کی ایک خاتون کا ایک غلام تھا  
 رفیع نام۔ اسلام میں غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ خاتون نے  
 رفیع کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے چچیرے بھائیوں کو معلوم ہوا تو اس سے  
 باز رکھنا چاہا اور سمجھایا کہ اگر اسے آزاد کر دو گی تو وہ کوفہ میں جا کر مفقود الخبر  
 ہو جائے گا۔

”میں اسے خدائی رضا کے لیے آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کی پروا نہیں  
 کہ وہ کہاں جاتا ہے“ خاتون نے جواب دیا۔  
 اس کے بعد خاتون نے جمعہ کے روز رفیع کو اپنے ہمراہ لیا اور کہا ”مجھے  
 جامع مسجد میں لے چلو“

مسجد میں پہنچ کر وہ منبر کے قریب گئی۔ امام نے اس کی بات سن کر  
 وہ لوگوں کو منبر پر کھڑا کر دیا۔ خاتون نے رفیع کا ہاتھ پکڑ کر اعلان کیا۔

”اے خدا میں اس کو آخرت کے لیے تیرے پاس جمع کرتی ہوں اور  
 تیری رضا کے لیے اسے آزاد کرتی ہوں۔ مسجد والو! گواہ رہنا کہ یہ غلام خدا  
 کے لیے آزاد ہے۔ آئندہ اسلام کے حق کے علاوہ اس پر کسی کا کوئی حق نہیں“  
 یہ کہہ کر وہ خاتون منبر پر سے اتری اور رفیع کو چھوڑ کر چلی گئی۔ یہی رفیع آگے  
 چل کر ابوالعالمیہ ریاحی کے نام سے مشہور ہوئے اور اپنے علم و فضل کے  
 باعث صحابہ کے نزدیک بھی واجب الاحترام قرار پائے ابن عباس رضی ان کو قریش

معززین سے اونچا بٹھاتے تھے۔

## آرزو کی پاکیزگی

امیر معاویہؓ کا زمانہ تھا۔ ایسا اتفاق ہوا کہ عبداللہ بن زبیر۔ عروہ بن زبیر۔ مصعب بن زبیر اور عبدالملک مسجد حرام میں جمع تھے ان میں سے ایک نے کہا:

”اؤ خدا کے گھر میں ہم اپنی اپنی آرزو پیش کریں“

”تجویز بہت خوب ہے“ سب نے بالاتفاق کہا۔

عبداللہ بن زبیر نے کہا: ”میری آرزو ہے کہ میں حرم کا بادشاہ ہو جاؤں۔ اور مجھے تخت خلافت ملے“

مصعب بن زبیر نے کہا: ”میری تمنا ہے کہ قریش کی دونوں حسین ترین بوئیں میرے عقد میں آجائیں۔“

عبدالملک بولا: ”میری آرزو ہے کہ میں کل روئے زمین کا بادشاہ ہو جاؤں۔ اور امیر معاویہ کا جانشین بنوں۔“

آخر میں عروہ کے فرمایا: ”مجھے تم لوگوں کی آرزوؤں پر سب سے کوئی آرزو پسند نہیں میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں زہرا اور عالم اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔“

خدا کی قدرت اور وقت کی بات کہ دعائیں قبول ہوئیں۔ عبدالستار بن زبیر  
 حرم کے بادشاہ ہوئے اور ۷ برس تک خلیفہ رہے۔ مصعب کے عقید میں  
 وہ دونوں غور میں آئیں۔ عبدالملک کو بنی امیہ کا تخت خلافت ملا اور وہ نہ  
 سے لے کر سپانہ تک پھیلی ہوئی سلطنت کا بادشاہ ہوا۔ اور عروہ کا شمار  
 خاصانِ خدا میں ہوا۔

## توکل علی اللہ

(۱)

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے انتقال سے قبل مسلمہ نے عرض کیا :  
 ”امیر المؤمنین آپ نے اپنی اولاد کو مال و دولت سے محروم رکھا اور اب  
 ان کو اس حال میں چھوڑ رہے ہیں، کہ ان کے پاس کچھ نہیں کیا اچھا ہو، کہ  
 آپ مجھے یا خاندان کے کسی اور شخص کو وصیت فرمادیں کہ ہم آپ کے  
 بچوں کا خیال رکھیں۔“

”مجھے ٹیک لگا کر بھاؤ۔“ عمر بن عبدالعزیز نے نحیف و کمزور آواز میں فرمایا۔  
 جب ٹیک لگا کر بھاگا تو فرمایا :  
 ”مسلمہ ! تم نے کہا کہ میں نے اپنی اولاد کو مال سے محروم رکھا، خدا کی قسم

میں نے اس کا کوئی حق تلف نہیں کیا۔ البتہ جس مال میں اس کا حق نہیں تھا وہ اس کو نہیں دیا۔ پھر تم نے کہا کہ میں نہیں یا خاندان کے کسی شخص کو وصیت کر جاؤں۔ تو سنو! اس معاملے میں میرا وصی اور ولی و کارساز صرف خدا ہے، جو نیک لوگوں کا ولی ہوتا ہے، میرے لڑکے اگر خدا سے ڈریں گے تو خدا ان کے لیے کوئی سبیل پیدا کر دے گا۔ اور اگر وہ گناہ میں مبتلا ہوں گے تو میں ان کو گناہ کرنے کے لیے قوی نہ بناؤں گا۔“

(۲)

سلاطین اور ارباب حکومت اپنی حفاظت کے لیے سینکڑوں سپاہی پرے پر متعین رکھتے ہیں۔ بنی امیہ کے خلفاء کا بھی یہی شعار تھا۔ مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز سر پر آرائے خلافت ہوئے تو جہاں شان و شوکت کے دوسرے اسباب کو ختم کیا وہاں اس فضول اہتمام کو بھی اڑا دیا اور کہا ”میرا محافظ خدا ہے۔“

ایک مرتبہ بعض ہوا خواہوں نے عرض کیا۔

”گذشتہ خلفاء کی طرح آپ بھی دیکھ بھال کر کھانا کھایا کریں اور نماز کے وقت

حملے سے بچاؤ کا انتظام فرمایا کریں۔“

”جن خلفاء کا تم ذکر کر رہے ہو اب وہ کہاں ہیں؟ حلیفہ راشد نے پوچھا۔

”وہ سب فوت ہو گئے“ لوگوں نے جواب دیا۔

”اگر وہ حفاظت کے تمام ساز و سامان کے باوجود موت سے نہ بچ سکے تو

اس کا حاصل کیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا۔

اس کے بعد اپنے خدا سے مخاطب ہو کر عرض کیا۔

”خدا یا اگر میں تیرے علم میں روز قیامت کے علاوہ اور کسی دن سے ڈروں

تو میرے خوف کو اطمینان سے نہ بدلنا۔“

(۳)

عامر بن عبداللہ ایک زاید خلوت نشین تھے۔ مگر شوق جہاد سے معمور عہدِ فاروقی میں اکثر گوشہ عبادت سے نکل کر میدان جہاد میں چلے جاتے تھے۔ جب وہ خدکی راہ میں لڑنے کے لیے جاتے اور رستے میں چھاڑیاں ملتیں تو وہ بے تکلفاً ان میں گھس جاتے۔ ان کے ساتھی کہتے حضرت احتیاط کیجئے۔ ایسا نہ ہو کوئی شہر کسی چھاڑی میں موجود ہو اور وہ حملہ کر دے۔ عامر جواب دیتے۔

”مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے خوف سے دل کو

آلودہ کروں۔“

(۴)

ہجرت حبش کا زمانہ تھا۔ مظلوم مسلمان مشرکین کے ظلم سے تنگ آ کر حبشہ کی جانب ہجرت کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی ذاتی وجاہت کے باوجود مامون نہیں تھے۔ ان کی تبلیغ سے حضرت طلحہ بن عبداللہ مسلمان ہو گئے۔ پھر اور اس کی بنا پر طلحہ کے چچا زید بن حویلد نے دونوں کو ایک ساتھ باندھ کر



مارا تھا چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے بھی ہجرت کر جانے کی اجازت لی اور عازم حبش ہو گئے۔ برک العناد کے مقام پر پہنچے تو ریشی ثارہ ابن الدغنهؓ سے پوچھا:

"کہاں کا قصد ہے؟"

"میری قوم نے مجھ کو جلا وطن کر دیا مجبور ہو کر کسی دوسری سرزمین میں جا رہا ہوں کہ آزادی سے اپنے پروردگار کی عبادت کر سکوں۔" حضرت ابو بکرؓ نے

ابن الدغنهؓ کو بتایا۔

"یہ تو بڑی شرم کا مقام ہے کہ تم جیسا آدمی جلا وطن کیا جائے تم مفلس و بے نوا کی دست گیری کرتے ہو۔ مہمان نوازی تمہارا شمار سے قرابت داروں کا خیال رکھتے ہو اور مصیبت زدوں کی اعانت کرتے ہو؟" ابن الدغنهؓ نے کہا۔

"یہ صحیح ہے لیکن اپنے وطن میں رہ کر اگر خدا کی عبادت نہ کر سکوں تو اپنے وطن میں رہنے کا کیا فائدہ؟" حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا۔

"تم میرے ساتھ چلو میں تم کو اپنی امان میں لیتا ہوں؟" ابن الدغنهؓ نے عالی حوصلگی سے کہا۔

حضرت ابو بکرؓ واپس آئے۔ ابن الدغنهؓ نے قریش میں پھیر کر اعلان کر دیا کہ "ابو بکرؓ میری امان میں ہیں۔ تم ایسے بھلے آدمی کو جلا وطن ہونے پر مجبور کرتے ہو جو محتاجوں کی خبر گیری کرتا ہے لوگوں کے مصائب میں کام آتا ہے جہازوں کی خدمت کرتا ہے اور قرابت داروں کا خیال رکھتا ہے؟"

قریش نے اس امان کو تسلیم کر لیا۔ مگر ان کا نمائندہ ابن الدغنه کے پاس آیا اور کہنے لگا :

” ہم تمہاری امان کو تسلیم کرتے ہیں۔ ابو بکر کو اجازت ہے کہ وہ حیب اور جس طرح جی چاہیں عبادت کریں۔ مگر یہ کام وہ اپنے گھر میں کریں۔“  
حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی۔ اور اسی میں عبادت کرتے لگے۔ قرآن کی آواز گھر سے باہر جاتی۔ اور سننے والے متاثر ہوتے۔ کفار قریش یہ دیکھ کر گھبرائے اور ابن الدغنه سے آکر کہا :

” ہم نے اس شرط پر امان دی تھی کہ ابو بکر چھپ کر عبادت کریں مگر وہ اپنے صحن میں قرآن پڑھتے ہیں اور ہماری عورتیں اور بچے اثر قبول کر رہے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اس سے باز آجائیں۔“

ابن الدغنه یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ کے پاس گیا اور اس نے کہا :

” تمہیں معلوم ہے میں نے اس شرط پر تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا تھا کہ تم چھپ کر اپنے طریق پر عبادت کرو گے ؟“

” میں اس شرط پر قائم ہوں۔“ حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا۔

” لیکن تمہاری آواز تو گھر سے باہر جاتی ہے۔ اب یا تو اس سے اجتناب کرو

یا مجھے ذمہ داری سے بری سمجھو۔“ ابن الدغنه نے کہا۔

” ابن الدغنه مجھے تمہاری پناہ کی ضرورت نہیں۔ میرے لیے اللہ کی پناہ

اور امان کافی ہے۔ حضرت ابو بکر نے استغنا کے ساتھ جواب دیا۔

## تقویٰ

(۱)

امام احمد بن حنبل ابھی بچے ہی تھے، اور ابھی لکھنا پڑھنا سیکھا ہی تھا کہ محلے کی عورتیں ان کو بلا کر ان سے اپنے خاوندوں کو خطوط لکھواتی تھیں۔ ان عورتوں کے خاوند فوجی مہموں کے سلسلے میں بغداد سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ان کی بیویاں اپنے خطوط میں ہر قسم کی باتیں لکھوانا چاہتی تھیں، لیکن احمد بن حنبل کا احساس تقویٰ ابتدا ہی سے اتنا اجاگر تھا کہ وہ خطوں میں کوئی بات خلاف تقویٰ نہ لکھتے۔

(۲)

یزید بن مہلب والی خراسان کو ایک جامع الصفات شخص کی ضرورت تھی اس نے لوگوں سے ایسے آدمی کو دریافت کیا۔ لوگوں نے ابو بردہ کا نام لیا جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے اور بڑے صاحب کمال بزرگ تھے یزید نے ان کو بلا یا۔ باتیں کہیں اور فی الواقع خصائل حسنة کا مجموعہ پایا اور کہا: میں آپ کو چند عہدوں پر مامور کرنا چاہتا ہوں، اور ان عہدوں کی تفصیل تالیف

” میں اس خدمت سے معذرت چاہتا ہوں۔“ ابو بردہ نے جواب دیا۔  
 ” نہیں آپ کو یہ خدمت قبول کرنی ہوگی۔“ یزید نے اصرار سے کہا۔  
 ” میرے والد ابو موسیٰ اشعری نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ  
 علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس شخص نے کوئی ایسا عہدہ قبول کیا جس کے متعلق  
 وہ خود جانتا ہے کہ وہ اس کا اہل نہیں۔ تو اس کو چاہئے کہ دوزخ کو اپنا ٹھکانا بنائے  
 یہ سن کر یزید مجبور ہو گیا۔ اور ان کی معذرت قبول کر لی۔

## دل کی اہمیت

اسلامی زندگی میں دل کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اسی  
 پہ پوری زندگی کی بنیاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ  
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل دیکھے تو ان میں  
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب میں بہترین پایا۔ حضور  
 صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے بندوں کے دل دیکھے تو آپ کے صحابہ کے  
 دلوں کو بہترین پایا۔ اس لیے ان کو آپ کا دیر در فوق بنایا جو اللہ کے دین کی  
 حفاظت کے لیے سر دھڑکی بازی لگائے ہوئے ہیں۔

## عفو و درگزر

حضرت ربیع بن خثیم جو بصرہ کے حلیل القدر تابعی اور عالم تھے ایک مرتبہ مسجد گئے۔ نمازیوں کا ہجوم بہت زیادہ تھا۔ جب جماعت کھڑی ہوئے لگی اور لوگ آگے بٹھے تو ایک شخص نے جو ان کے پیچھے تھا ان سے کہا آگے بڑھو۔ لیکن لوگوں کی کثرت سے آگے بڑھنے کی جگہ نہ تھی۔ وہ آگے نہ بڑھ سکے اس شخص نے غصے میں آکر ان کی گردن میں ہتھوڑا دیا۔ انہوں نے گردن موڑ کر صرف اس قدر کہا خدا تم پر رحم کرے۔ خدا تم پر رحم کرے۔ اس شخص نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ربیع تھے وہ فرطِ ندامت سے رونے لگا۔

(۲)

حضرت عبداللہ بن عون کوفہ کے اکابر علماء میں تھے۔ اسلامی اخلاق کا پاکیزہ نمونہ تھے، زبان پر ان کو اتنا قابو تھا کہ اپنے لونڈی غلام بلکہ بکری اور مرغی تک کو گالی نہیں دیتے تھے۔ ہر سچے مسلمان کی طرح جہاد کا شوق رکھتے تھے۔ اس کے لیے ایک اونٹنی پال رکھی تھی جس کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غلام کو حکم دیا کہ اس پر پانی لا کر لائے۔ اس ظالم نے اسے اس قدر بے دردی سے مارا کہ اس کی ایک آنکھ بہہ گئی۔ یہ ایک ایسا حادثہ تھا

جس پر لوگوں کو گمان ہوا کہ ان کو غصہ آئے گا۔ لیکن حبیب عبد اللہ نے اونٹنی کو دیکھا تو غلام سے صرف اس قدر کہا :

” سبحان اللہ! خدام کو برکت دے۔ مارنے کے لیے تمہیں چہرے کے علاوہ اور کوئی عضو نہ ملنا تھا۔

اس کے بعد اس کو گھر سے نکال کر آزاد کر دیا۔

## عفو و حلم

(۱)

حضرت علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم جو امام زین العابدین کے نام سے معروف ہیں، ایک روز مسجد سے نکلے اثنائے راہ میں ایک شخص ملا اور بے گناہ گالیاں دینے لگا۔

آپ کے غلام اور خدام اس کی طرف لپکے کہ اس بدتمیزی کی سزا دی آپ نے روک دیا اور اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا :

” میرے جو حالات تم سے مخفی ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں۔ اگر تمہاری

کوئی ضرورت ایسی ہو جسے میں پوری کر سکتا ہوں تو بتاؤ ؟

گالیاں دینے والا شخص یہ سن کر سخت شرمندہ ہوا۔ امام نے اپنا کرتا

انار کر دے دیا اور ایک ہزار درہم نقد عطا فرمائے۔ اس حسن انتقام کا یہ اثر  
ہوا کہ وہ شخص بندہ بے دام بن گیا اور لپکا راٹھا۔  
”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں“

(۲)

ایک مرتبہ ایک شخص نے امام موصوف کو اطلاع دی کہ فلاں شخص آپ کو  
پرا بھلا کہتا ہے۔ آپ خبر دینے والے کو ہمراہ لے کر اس شخص کے پاس پہنچے۔ خبر  
دینے والا یہ سمجھتا تھا کہ آپ نے اس کو اپنی مدد کے لیے ہمراہ لیا ہے مگر وہاں پہنچ کر  
آپ نے اس شخص سے فرمایا تم نے میرے بارے میں جو کچھ کہا ہے اگر صحیح ہے  
تو خدا میری مغفرت فرمائے اور اگر جھوٹ ہے تو خدا تمہاری مغفرت فرمائے۔  
یہ کہہ کر واپس چلے آئے۔

## صبر و تحمل

حضرت عروہ بن زبیر عبدالملک کے پاس شام گئے ہوئے تھے۔ ایک  
روز وہ اپنے لڑکے کو ہمراہ لے کر شاہی اصطبل دیکھنے گئے۔ لڑکا ایک گھوڑے  
پر سوار ہوا جس نے اسے چمچ دیا اور اس کے صدمے سے وہ جاں بحق ہو گیا۔  
اس کے بعد عروہ کے پاؤں میں ایک تھامیت زبیر پھینکا اور نکلا۔

اطباء نے کہا " پاؤں کاٹ دینا چاہئے ورنہ زہر سارے جسم میں پھیل کر  
ہلاکت کا باعث ہوگا۔"

حضرت عروہ نے اپنا پاؤں کٹوانے کے لیے بڑھا دیا۔

طیب نے کہا " تھوڑی سی شراب پی لیجئے تاکہ تکلیف کا احساس کم ہو۔"

" جس مرض میں مجھ کو صحت کی امید بھی ہو۔ میں اس میں بھی حرام شے سے

مدد نہیں لوں گا " حضرت عروہ نے جواب دیا۔

تو پھر کوئی بے ہوش کر دینے والی دوا ہی استعمال کر لیجئے " طیب نے

مشورہ دیا۔

" صاحب میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے جسم کا ایک عضو کاٹا جائے اور

میں اس کی تکلیف محسوس نہ کروں۔"

جب پاؤں کاٹنے لگے تو چند آدمی سنبھالنے کے لیے آئے حضرت

عروہ نے پوچھا:

" تمہارا کیا کام ہے؟"

تکلیف کی شدت میں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے

آپ کو سنبھالنے کے لیے آئے ہیں " انہوں نے جواب دیا۔

حضرت عروہ نے فرمایا " انشاء اللہ مجھے تمہاری امداد کی ضرورت

نہیں ہوگی۔"



طیب نے اوزاروں سے پاؤں کاٹ دیا۔ حضرت عروہ نہایت متعجب  
 کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اور زبان تسبیح و تہلیل میں مشغول تھی جب خون بند  
 کرنے کے لیے زخم کو داغا گیا تو درد کی شدت سے بیہوش ہو گئے۔ جب  
 ہوش میں آئے تو کہا ہوا پاؤں منگا کر دیکھا اور الٹ پلٹ کر اس سے فرمایا :  
 ”اس ذات کی قسم جس نے تجھ سے میرا بوجھ اٹھوایا۔ اس کو خوب معلوم  
 ہے کہ میں تیرے ساتھ کسی حرام راستے پر گامزن نہیں ہوا۔“  
 بیٹے کے انتقال اور پاؤں کے کٹنے کی مصیبت پر بھی اللہ کا شکر  
 کرتے اور کہتے :

”اللہ تیرا شکر ہے، کہ میرے چار ہاتھ پاؤں میں سے تو نے ایک ہی  
 لیا اور تین باقی رکھے۔ اور چار بیٹوں میں سے ایک ہی لیا اور تین باقی رکھے  
 اگر تو نے کچھ لیا ہے تو بہت کچھ باقی رکھا ہے اگر کچھ مصیبت میں مبتلا کیا  
 ہے تو بہت دنوں عافیت میں بھی رکھ چکا ہے۔“

## اصلاحِ نفس

حضرت نمر رضی اللہ عنہ منیر پر چڑھے اور صرفہ اتنا کہہ کر اتر آئے  
 ”ایک دن وہ تھا کہ میں اپنی مثالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور وہ آگے

عوض میں مٹھی بھر بھجور دے دیا کرتی تھیں اور آج میرا یہ زمانہ ہے۔  
 ان کے دوستوں کو تعجب ہوا کہ امیر المومنین نے ایسا کیوں کہا حضرت  
 عبدالرحمن بن عوف نے پوچھ ہی لیا کہ "امیر المومنین اس طرح تو آپ نے  
 اپنی تنقیص کی اور خود کو لوگوں کی نظروں میں حقیر کیا۔"  
 "نہیں! بلکہ قصہ یہ ہے کہ تنہائی میں میرے دل نے کہا تم امیر المومنین  
 ہو تم سے افضل کون ہو سکتا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس کو اس کی حقیقت  
 بتا دوں، تاکہ اس کو بھر اس قسم کا خیال بھی نہ آئے" امیر المومنین نے فرمایا۔

## انکسار

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت رجاہ  
 بن حیان ہوشام کے ایک ممتاز عالم و فقیہ و محدث بزرگ تھے۔ تشریف فرما  
 تھے۔ گفتگو میں رات زیادہ ہو گئی اور چراغ تھپلانا لگا، ملازم پاس ہی  
 سو رہا تھا۔ رجاہ نے کہا۔

"لو کہ کو حیا دول کہ اٹھ کر چراغ میں تیل ڈال دے"

"نہیں اسے سوئے دو دن بھر کا تھا ہوا ہے" امیر المومنین نے فرمایا۔

رجاہ خود اٹھنے لگے، امیر المومنین نے ان کو بھی روک دیا اور فرمایا۔

”آپ مہمان ہیں۔ مہمان سے کام لینا مروت کے خلاف ہے۔“  
 پھر خود اٹھے زیتون کا نیل لیا چراغ میں ڈالا اور پلٹ کر فرمایا :  
 ”جب میں اٹھا تھا اس وقت بھی عمر بن عبد العزیز تھا اور ایسا کبھی  
 عمر بن عبد العزیز ہوں ؟“

## شہرت کے پھول

حضرت ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی، ایک مشہور تابعی تھے اپنے علم زہد  
 اور عبادت کی وجہ سے ہر صحیح خلاق تھے مگر ان کو شہرت سے سخت  
 نفرت تھی، لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے عام اور عالوف رستوں کو  
 چھوڑ کر نانا توں اور دور دراز رستوں سے نکلنے کا حکم جب کسی کا سامنا ہوتا  
 تو خود پیش قدمی کر کے سلام کرنے، لوگ ان کے سلام کے جواب میں بہت کچھ  
 اضافہ کرتے۔ اس پر اپنے خدا کو مخاطب کر کے عرض کرتے : ”الہی تجھ کو خوب  
 معلوم ہے کہ میری یہ خواہش نہیں ہے۔“ اور اس جملے کو کئی مرتبہ دہراتے۔

# مساوات

(۱)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دو صاحبزادے عبداللہ اور عبید اللہ  
ایک ہم میں عراق گئے تھے۔ ہم سے فارغ ہو کر نصیرہ آئے جہاں حضرت ابو موسیٰ  
اشعری گورنر تھے۔ انہوں نے اپنے دوست کے بیٹوں کا خیر مقدم کیا اور خوب  
خاطر مدارات کی جیب مدینہ روانہ ہونے لگے تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا: "بھتیجا!  
میرے پاس صدقے کا کچھ مال ہے جس کو امیر المؤمنین کی خدمت میں بھیجنا ہے  
یہ مال آپ لے لیں اور سامان تجارت خریدیں اور مدینہ جا کر فروخت کر دیں اور  
جو نفع حاصل ہو اپنے لیے رکھ لیں اور اصل مال امیر المؤمنین کو دے دیں۔"

"ایسا نہ ہو امیر المؤمنین خفا ہوں" دونوں نے جواب دیا۔

"میں امیر المؤمنین کو اطلاع دے دیتا ہوں۔ گورنر نصیرہ نے کہا۔

مدینہ آکر سامان تجارت فروخت کیا گیا اور اس سے خاصہ نفع حاصل

ہوا۔ حسب ہدایت وہ اصل مال لے کر امیر المؤمنین کی خدمت میں پہنچے اور

عرض کیا کہ: "ابا جان یہ اصل مال ہے اور یہ ہمارا منافع۔"

"لیکن یہ بتاؤ کہ ابو موسیٰ نے کل نفع کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے امیر المؤمنین

نے پوچھا۔

”نہیں اباجان“ بیٹوں نے عرض کیا۔  
 ”تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے بیٹے سمجھ کر تمہارے ساتھ یہ رعایت  
 کی ہے“ امیر المومنین نے فرمایا۔

”جی ہاں“

”تو اصل رقم اور مزاحمہ دونوں بیت المال میں داخل کرو۔ امیر المومنین نے  
 حکم دیا۔“

(۲)

حضرت عمر بن عبدالعزیز گرمیوں کی ایک دوپہر میں آرام کر رہے تھے  
 اور ایک بوڑھی نیکھا جھل رہی تھی۔ نیکھا جھلتے جھلتے اس کی آنکھ لگ گئی۔  
 تو نیکھا لے کر بوڑھی کو جھلنے لگے، اس کی آنکھ کھلی تو گھبرا کر چلائی،  
 ”امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔“

”میری طرح تم بھی انسان ہو۔ تم کو بھی گرمی لگتی ہے جس طرح تم مجھے  
 نیکھا جھل رہی تھیں اگر میں نے بھی جھل دیا تو مضائقے کی کیا بات ہے۔“  
 امیر المومنین نے بوڑھی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا۔

(۳)

سلاطین و امراء کا قاعدہ ہے کہ حیب وہ کہیں جاتے ہیں تو نقیب اور  
 چوہدار ان کے آگے آگے علم لے کر چلتے ہیں۔ بنی امیہ کے خلفاء نے بھی

یہی غیر اسلامی تفسیق کا قاعدہ جاری کر رکھا تھا۔ پھر انہوں نے یہ رسم بھی جاری کر دی تھی کہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان پر درود و سلام بھیجا جاتا تھا۔

حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور حکومت آیا تو کونوال نے حسب دستور نیزہ لے کر آپ کے آگے آگے چلنا چاہا۔ آپ نے اسے روک دیا اور فرمایا میں مسلمانوں کا ایک معمولی فرد ہوں۔

سلام کے بارے میں بھی ہدایت کر دی کہ عام سلام کیا جائے۔ عمال کو فرمان لکھا کہ پیشہ ورو اعظمت خلفاء پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ان کو اس فعل سے روک دو اور ان کو ہدایت کر دو کہ وہ عام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، مخصوص طور پر میرے لیے کوئی دعا نہ کریں، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں اگر میں ان میں ہوں گا میں بھی دعا میں شامل ہو جاؤں گا۔

(۴)

ایک دفعہ مسلمہ بن عبد الملک ایک مقدمے میں فریق کی حیثیت سے حضرت عمر بن عبد العزیز کے اجلاس میں پیش ہوا۔ اور چونکہ شاہی خاندان سے تھا اس لیے درباری فرش پر جا بیٹھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا: اپنے فریق مقدمہ کی موجودگی میں تم فرش پر نہیں بیٹھ سکتے یا عام لوگوں کے برابر بیٹھو یا کسی دوسرے کو اپنا وکیل مقرر کر دو،

(۵)

حضرت علی بن حسین بن علیؑ — امام زین العابدینؑ خاتون فاطمی سید تھے  
مگر شرور نسب کو عموماً مٹانے کے لیے انھوں نے اپنی ایک لڑکی کی شادی  
ایک غلام سے کر دی تھی، اور ایک لڑکی کو آزاد کر کے اس کے ساتھ خود نکاح  
کر لیا تھا۔ خلیفہ عبدالملک کو معلوم ہوا تو اس نے خط لکھ کر اس فعل پر ملامت  
کی، امام نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ ہے  
آپ نے صفیہ بنت حنی کو جو لڑکی تھیں آزاد کر کے ان سے نکاح  
کر لیا تھا اور اپنے غلام زید بن حارثہ کو آزاد کر کے اپنی بچہ چھیڑا  
بہن زینب بنت جحش کو ان کے نکاح میں دے دیا تھا ہم اور ہم  
رسول اللہ سے زیادہ معزز نہیں ہیں۔“

## انفاق فی سبیل اللہ

سب سے پہلے قیصر روم نے مسلمانوں کو مرعوب اور اپنی سلطنت میں  
رعب و وقار قائم کرنے کے لیے افواہ اڑادی کہ وہ عرب پر حملہ آور ہوئے  
والا ہے۔ حالات سخت نازک تھے۔ موسم سخت گرمی کا تھا پھل بک چکے تھے

اور مسلمان جو مسلسل جنگوں کے باعث عسرت و تنگ حالی میں مبتلا تھے۔  
 دین کے طلب گار تھے۔ لیکن جب عین قلب اسلام پر حملے کا اندیشہ پیدا  
 ہوا تو وہ کمر ہمت کس کر کھڑے ہو گئے اور تیس ہزار سرفروش رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ سپہ سالار اسلام نے حکم دیا کہ عرب  
 و روم کی سرحد پر جا کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے گا۔

اتنے بڑے لشکر اور اتنی طویل مسافت کے لیے عظیم الشان تیاریوں کی  
 ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اللہ کی راہ میں اپنا  
 مال صرف کرنے کی بھی تلقین فرمائی کہ جانیں تو وہ پہلے ہی حوالے کر چکے  
 تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں نے بڑھ بڑھ کر انفاق فی سبیل اللہ میں حصہ لیا  
 لیکن حضرت ابو بکرؓ نے ایک ایسی مثال پیش کی جس کی نظیر تاریخ انسانی میں  
 نہیں ملتی۔

وہ اپنے گھر کا کل اثاثہ لے کر خدمت نبویؐ میں پہنچ گئے۔ رحمت عالم  
 صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا :  
 ”ابوبکر! اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟“  
 ”اللہ اور اس کا رسولؐ“ پیکر اثاار و فدوت نے جواب دیا۔



## اتفاق

آبرو انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ مگر اسلام میں  
 رضائے الہی کے سامنے دنیا کی کسی عزیز سے عزیز متاع کی بھی کوئی  
 حیثیت نہیں۔ ۱۰ھ میں جب واقعہ افک پیش آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ  
 کا ایک عزیز مسطح بن اثاثہ بھی منافقین کی مفسدہ پردازی کا شکار ہو گیا۔ حضرت  
 ابو بکر مسطح کی کفالت فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ  
 کی برأت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسطح کی کفالت سے دستبردار  
 ہو گئے اور فرمایا:

”میں اس نتنہ پردازی اور تہمت طرازی کے بعد اس کی کفالت نہیں کر سکتا،  
 لیکن اس کے بعد ہی سوائے آیات نازل ہو گئیں

وَلَا يَأْتِلِ أَرْوَ الْفَضْلِ مَنَكِرٍ وَالسُّعْدَةِ ان يُوْتُوا دُلَى الْقُرْبَى وَالْهَسَايِنِ  
 وَالْمَهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبِعْفُورِ وَالْبَيْصُفِ حِوَالَا تَحِبُّونَ ان يَغْفِرَ اللَّهُ  
 لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (نور)

(تم میں جو لوگ، بزرگی اور مقدرت رکھتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں  
 اور اللہ کی راہ میں گھر تھپوڑنے والوں کو مدد دینے کی قسم نہ کھائیں انہیں چاہیے  
 کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں بخش دے

اور اللہ غفور و رحیم ہے)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمان الہی سنا تو فوراً "مسطح کا سارا قصور معاف کر دیا اور کہا: "خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھے بخش دے" اور "مسطح کا وظیفہ پھر جاری کر دیا۔"

## فیض کے اسباب بنا

مسلمان مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے یثرب کی اجنبی بستی میں آکر آباد ہو گئے تھے۔ جو اب مدینۃ الرسول کے نام سے مشرف ہو کر مسلمانوں کی پناہ گاہ بن گئی تھی۔ آبادی کے بڑھ جانے کے باعث پانی کی سخت تکلیف ہو گئی تھی کیونکہ شہر بھر میں صرف ایک کنواں بیرومہ تھا۔ جس کا پانی پینے کے لائق تھا اور اس کا مالک ایک یہودی جو اس کا پانی فروخت کرتا تھا۔

قسیم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا پانی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کون بیرومہ کو خرید کر وقف کرنا ہے؟ یا رسول اللہ میں اس خدمت کیلئے حاضر ہوں۔ حضرت عثمان نے عرض کیا۔

بیرومہ کے مالک یہودی سے حضرت عثمان نے خرید و فروخت کی گفتگو کی تو اس بخیل نے کہا کہ:

میں صرف نصف کنواں فروخت کر سکتا ہوں۔ ایک دن تمہاری باری  
ہوگی۔ دوسرے دن کنواں میرے لیے مخصوص رہے گا۔ اور اس کے لیے میں  
۱۲ ہزار درہم بطور قیمت لوں گا۔

حضرت عثمان نے بدہ چٹہ مجبوری یہ شرط منظور کر لی اور اس اشکال کا  
حل یہ نکالا گیا کہ مسلمان حضرت عثمان کی باری کے روز اتنا پانی بھر کر رکھ لیتے  
تھے کہ دو دن کے لیے کافی ہوتا تھا، جب یہودی نے دیکھا کہ اس نے  
نفع اندوزی کا چوڑھب نکالا تھا، نا کام ہو گیا تو اس نے حضرت عثمان سے  
کہا "کنوئیں کا باقی نصف بھی خرید لیجئے۔"

آٹھ ہزار درہم میں یہ نصف بھی انھوں نے خرید لیا اور بندگان خدا کی سیرابی  
کا انتظام کر کے اپنے لیے جو عن کوثر سے سیراب ہونے کا انتظام کر لیا۔

## سجاوٹ

(۱)

حضرت صفوان بن سلم زہری ایک شب مسجد سے نکلے۔ موسم سخت سردی کا تھا  
مسجد کے باہر ایک آدمی کو دیکھا کہ ننگے بدن سردی میں کھٹکتا رہا ہے۔ انہوں  
نے اسی وقت اپنے جسم کے کپڑے اتار کر دے دیئے۔

(۲)

حضرت عروہ بن زبیر کے کھجوروں کے باغات تھے۔ جب کھجوروں کی فصل آتی اور وہ پاک کرتیاری ہوتیں تو باغ کی دیوار ٹڑوا دیتے اور صلائے عام ہو جاتی کہ لوگ آئیں اور کھاٹیں اور باندھ باندھ کر ساتھ لے جائیں۔

(۳)

حضرت زین العابدین <sup>رضی</sup> کا انتقال ہوا اور ان کو غسل دیا جانے لگا تو ان کے جسم پر نیل کے داغ نظر آئے تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ بائیں جہلات قدر آپ راتوں کو اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوریاں لاد کر غریبوں کے گھر لے جایا کرتے تھے اور یہ اس کے داغ تھے۔

جب کوئی سائل آتا تو امام موصوف فرماتے:

”میرے نوشتے کو آخرت کی طرف لے جانے والے مرحبا“

اور خود اٹھ کر سائل کو دیتے۔ فرمایا کرتے تھے۔

”صدقات سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتے ہیں۔“

اپنی زندگی میں دو مرتبہ اپنے کل مال و متاع کا ادھا خدا کی راہ میں

دے دیا تھا۔

## ایشیاء و قربانی

باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا اور ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ منصب خلافت سے الگ ہو جائیں لیکن حضرت عثمان اس وصیت کی بنا پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ ان کا مطالبہ نہیں مانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا۔ اگر لوگ تم سے کہیں کہ اس قمیص کو اتار ڈال تو ان کی اس خواہش پر قمیص نہ اتار ڈالنا۔ حضرت عثمان جانتے تھے کہ خلافت یہ قمیص ہے۔ بالآخر باغیوں نے باہم مشورہ کیا کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان اپنے مکان میں محصور تھے انھوں نے اپنے کازوں سے اس مشورے کو سنا اور مفسدوں کے مجمعے کے سامنے آکر فرمایا۔

”لوگو! آخر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہوئے ہو۔ اسلام کے قانون

میں صرف تین صورتیں ہیں جن میں ایک مسلمان کا قتل جائز ہے۔

۱۔ اس نے بدکاری کی ہو تو اس کو سنگسار کیا جائے گا۔

۲۔ اس نے کسی شخص کو بالارادہ قتل کیا ہو تو وہ قصاص میں مارا جائے گا۔

۳۔ وہ مرتد ہو گیا ہو تو وہ قتل کیا جائے گا۔

میں نے نہ جاہلیت میں بدکاری کی نہ اسلام میں کی۔ نہ میں نے کسی کو قتل کیا

اور نہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا۔ میں اب بھی گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے۔  
محمد اس کا بندہ اور رسول ہیں۔

یاغیوں نے ان دلیلوں کو تسلیم کیا مگر اپنے ارادے سے باز نہ آئے۔  
اسی دوران میں مغیرہ بن شعبہ آئے اور کہا:  
”امیر المؤمنین تین باتوں میں سے کسی ایک بات کو قبول کر لیجئے تاکہ فتنہ ختم ہو۔“  
کہیے ”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا۔“

امیر المؤمنین آپ کے جان نثاروں اور حامیوں کی ایک بڑی تعداد یہاں  
موجود ہے۔ اس کو لے کر نکلیے اور یاغیوں کا مقابلہ کر کے ان کو بھگا دیجئے۔“  
مغیرہ نے عرض کیا ”آپ حق پر ہیں اور یاغی باطل پر۔ اہل مدینہ حق کا ساتھ  
دیں گے۔“ مغیرہ نے کہا۔

”تم درست کہتے ہو۔ مگر میں باہر نکل کر اور جنگ کر کے وہ پہلا خلیفہ نہیں  
بننا چاہتا جو امت محمدی کی خورزیری کرے“ حضرت عثمان نے بے نیازی  
مگر جزم کے ساتھ فرمایا۔

”اگر آپ جنگ کے لیے تیار نہیں تو دوسری طرف سے دیوار توڑ کر باہر  
نکلے اور سواریوں پر بیٹھ کر مکہ معظمہ تشریف لے جائیے حرم میں یہ لوگ لڑ نہیں  
سائیں گے۔“ مغیرہ نے عرض کیا۔

”مجھے یہ بات بھی منظور نہیں۔ اگر میں مکہ معظمہ بھی چلا گیا تو مجھے ذوق نہیں

کہ یہ لوگ حرم النبی کی توہین سے باز آجائیں گے اور خنجاک نہیں کریں گے۔ جو لوگ میری جان کے درپے ہیں ان سے حرم کے احترام کی کیا توقع میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا جو مکہ جا کر حرم کی بے حرمتی کا باعث ہوگا۔ مغیرہ میں اس پیش گوئی کا مصداق نہیں بنتا چاہتا حضرت عثمان نے فرمایا۔

”تو امیر المؤمنین! پھر تیسری صورت یہ ہے کہ یہاں سے نکل کر شام چلے جائیے وہاں معاد یہ موجود ہے۔ ادھر کا رخ کرنے کی ہمت بھی یاغیوں کو نہیں ہوگی مغیرہ نے بے بسی کے ساتھ عرض کیا۔

لیکن مغیرہ مجھے یہ صورت بھی منظور نہیں۔ میں اپنے ہجرت کے گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان نے فرمایا۔

مغیرہ مالیں اور لاجواب ہو کر چلے گئے۔

(۲)

حضرت عثمان کو باغیوں کی یورش سے بچانے کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر کی سرکردگی میں مسانت سوکھ فروش اور جاں نثار امیر المؤمنین کے وسیع مکان میں موجود رکھے۔ عبداللہ بن زبیر شجاعت و بہادرتسا میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ وہ حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔

” امیر المومنین! اس وقت گھر کے اندر ہماری خاصی جمعیت موجود ہے۔ آپ کا اشارہ ہو تو ہم ان باغیوں کو تلوار کی نوک پر رکھ لیں۔“

” عبد اللہ اگر تم میں سے کسی ایک کا بھی یہ ارادہ ہو تو میں اس کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ وہ میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔“ امیر المومنین نے حکم دیا۔

عبد اللہ، مایوس ہو کر گئے تو حضرت زید بن ثابت آئے اور کہا،

” امیر المومنین! انصار دروازے پر کھڑے اجازت چاہتے ہیں کہ جس طرح انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے تیغ کے جوہر دکھائے تھے۔ امیر المومنین کی طرف سے حق نصرت ادا کریں۔“

” زید اگر لڑائی مقصود ہے تو میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس وقت میرا سب سے بڑا حق نصرت یہ ہے کہ میری حماقت و مدافعت میں کوئی شخص تلوار نہ اٹھائے۔“ حضرت عثمان نے جواب دیا۔

پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ حضرت عثمان نے فرمایا:

” ابو ہریرہ! کیا تم اس کو لپیٹ کر دو گے کہ ہماری دنیا کو اور ساتھ ہی حجج کو بھی قتل کر دو؟“

” ہرگز نہیں امیر المومنین۔“ ابو ہریرہ نے کہا۔

تو سنو! ارشاد الہی ہے کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے گویا سب



انسانوں کو قتل کر دیا" اگر تم نے ایک کو بھی قتل کیا تو گویا سب قتل ہو گئے۔ تم میری فکر نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دو مرتبہ خبر دے چکے ہیں میری شہادت مقدر ہو چکی ہے اور حسب ارشاد صبر کروں گا۔

جمعہ کے روز صبح کو اٹھے تو اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا۔

"میری شہادت کا وقت آگیا۔ آج یا غی مجھے قتل کریں گے۔"

"نہیں نہیں امیر المؤمنین ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اہلیہ محترمہ نے آزر دگی کے

ساتھ کہا۔

بی بی۔ میں آج خواب دیکھ چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر

و عمرؓ تشریف لائے ہیں اور فرار ہے ہیں عثمان جلدی کرو۔ اخطار کے لیے ہم تمہارے منتظر ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان آج جمعہ میرے

ساتھ پڑھنا اس لیے بس آج روانگی ہے۔"

حضرت عثمانؓ نے صبر و تحمل اور سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔

اس کے بعد نیا پاجامہ منگا کر پہنا۔ اپنے بیس غلاموں کو آزاد کر دیا اور قرآن مجید

کھول کر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔

باغیوں نے مکان پر ہلہ بول دیا چار باغی دیوار بھانڈ کر چھپت پر چڑھ گئے

جہاں حضرت عثمان مصروف تلاوت تھے اور ان کو شہید کر دیا، خلیفہ مظلوم

نے اپنی مدافعت میں ہاتھ تک نہ اٹھایا۔ زخم کھا کر گرسے تو زبان سے صرف

یہ الفاظ نکلے "بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ" یہ پہلا خون تھا جو ملت کی تاریخ میں مسلمانوں نے مسلمان کا بہایا۔ اور خونِ نیری کا سلسلہ جو چلا تو آج تک بند نہیں ہوا۔ تاہم حضرت عثمان نے تو خانہ جنگی کو روکنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگادی تھی۔

## اشارہ

حجاج ثقفی حضرت ابراہیم نخعی تابعی کا سخت دشمن تھا اور ان کو آزار پہنچانے کی تلاش میں رہتا تھا۔ مگر وہ ہاتھ نہیں آتے تھے۔ بالآخر اس نے اپنے آدمی مقرر کئے کہ ان کو گرفتار کر لائیں حضرت ابراہیم بن یزید تمیمی کو معلوم ہوا تو انھوں نے ابراہیم نخعی کی بجائے خود کو پیش کر دیا اور کہا کہ میں ہوں ابراہیم سرکاری آدمی ابراہیم نخعی کو نہیں پہچانتے تھے۔ اور ابراہیم تمیمی کو پکڑ کر لے گئے حجاج نے حکم دیا کہ ان کو زنجیروں میں جکڑ کر دیاس کے قید خانے میں ڈال دیا جائے یہ قید خانہ ایک عذاب خانہ تھا۔ اس میں سردی گرمی دھوپ اور پانی سے بچنے کا کوئی انتظام نہ تھا جو قیدی اس میں داخل ہوا ہر گریز نکالا۔

اس قید پر محسن نے چند ہی روز میں ان کا رنگ روپ اس طرح بدل دیا کہ

ان کی ماں بھی ان کو نہ پہچان سکی۔ لیکن ابراہیم تمہی صبر و استقلال کے ساتھ  
 تمام مصائب کا مقابلہ کرتے رہے اور حجاج کو یہ نہ بتایا کہ وہ ابراہیم بھی نخعی  
 نہیں ہیں۔ بالآخر اسی حالت میں انتقال کیا اور اثنیار و قربانی کی ایک بے نظیر  
 مثال قائم کر گئے۔ جس شب میں ان کا انتقال ہوا۔ حجاج نے خواب میں دیکھا  
 کہ ایک چنٹی مر گیا۔ صبح کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ابراہیم نے قید خانے میں  
 جان دی۔

## فرض شناسی

ہرم بن حیان عبدی کو حضرت عمرؓ نے کوئی عہدہ سپرد کر دیا تھا۔ سرکاری  
 عہدہ داروں کی سب سے بڑی آزمائش کا باعث ان کے اعزہ و احباب ہوتے  
 ہیں جو ان سے مختلف قسم کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ہرم بن حیان نے عہدے  
 پر فائز ہونے کے بعد اپنے مکان کے سامنے اس طرح آگ چلا دی کہ ان تک کوئی  
 شخص نہ پہنچ سکے۔

ان کے احباب و اعزہ حسب توقع آئے۔ مگر درمیان میں آگ حائل تھی۔ دور  
 سے سلام کر کے ٹکڑے ہو گئے۔ ہرم نے کہا: "آئیے آئیے لے لیا لیتے۔ اٹاؤ سہلاؤ۔"

”ہم کس طرح آئیں ہمارے اور آپ کے درمیان تو آگ حائل ہے؟“  
 ”تم اتنی سی آگ تصور نہیں کر سکتے اور مجھ کو دوزخ کی آگ میں جھونکنا چاہتے  
 ہوئے۔ ہم نے ان کی عبرت کے لیے جواب دیا۔  
 لوگ بات کو پاگئے اور واپس چلے گئے۔“



## فراست و حسن تدبیر

مومن مکار اور فریبی نہیں ہوتا۔ مگر فراست و حسن تدبیر اس کے اخلاق و  
 سیرت کا ایک ضروری حصہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 مکہ معظمہ سے یثرب کو ہجرت فرمائی اور حضرت ابوبکر کو ہمراہ لے کر شب کی  
 تاریکی میں نکل گئے تو چند روز تک غار ثور میں پناہ گزین رہے تاکہ تلاش و جستجو کا  
 ہنگامہ فرو ہو جائے اور وہ اطمینان کے ساتھ سفر کا آغاز کریں۔

لیکن ضروری تھا کہ غار ثور میں جو مکہ معظمہ سے چند میل کے فاصلے پر تھا پھرین ز  
 طحیاریں اور مشرکین کی سرگرمیوں کا علم ہوتا رہے۔ اس غرض کے لیے حضرت  
 ابوبکر نے اپنے صاحبزادہ عبداللہ کو ہدایت کر دی تھی کہ دن بھر مکہ میں جو حالات  
 پیش آئیں سب کی اطلاع حاصل کرو، اور رات کو ہمارے پاس آکر آگاہ کرو۔

اس میں اس امر کا اندیشہ تھا کہ عبد اللہ کے نشانات قدم کو صبح کے وقت  
 مشرکین مکہ دیکھ لیں گے اور راز فاش ہو جائے گا۔ لہذا ابو بکر نے یہ تدبیر کی تھی  
 کہ ان کا غلام عامر بن فہیرہ دن کو چراگاہ میں بکریاں چراتا اور رات کے وقت  
 غار کے پاس لے آتا۔ بکریوں کا تازہ دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 اور حضرت ابو بکرؓ کو پلاتا اور صبح کو بکریاں اس طرح ہانک کر لے جاتا کہ  
 بکریاں عبد اللہ کے نقوش قدم کو مٹاتی ہوئی چلی جاتیں۔ تین رات یہ کارروائی  
 ہوئی اور اس خوبی کے ساتھ کہ کفار کو ذرا بھی شبہ نہ ہوا۔



## فراست و دانائی

مومن نہایت شریف ہوتا ہے وہ کسی کو دھوکا نہیں دیتا۔ مگر وہ نہایت  
 دانا اور صاحب فراست بھی ہوتا ہے اور آسانی سے دھوکے میں نہیں آتا۔  
 خلیفہ عبد الملک کے زمانے میں امام شعبی ایک جلیل القدر تابعی اور ممتاز عالم  
 و فقیہ تھے۔ فہم و تدبیر میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ عبد الملک نہایت  
 اہم سفارتی خدمات ان سے لیتا تھا۔ ایک مرتبہ قیصر روم کے یہاں ایک اہم سفارت  
 پر ان کو بھیجا گیا۔ قیصر روم نے ان سے جتنے سوالات کئے انہوں نے اس کے

نہایت شافی جواب دئے۔ ان کی فہم و فراست سے وہ بے حد متاثر ہوا اور پوچھا:-

”تم شاہی گھرانے سے ہو۔“

”نہیں۔ بلکہ میں ایک عام سرب ہوں“ امام شعبی نے جواب دیا قیصر نے یہ سن کر زیر لب کچھ کہا۔ پھر ایک رقعہ لکھ کر دیا اور ہدایت کی کہ ”اپنے بادشاہ کو میرے پیغامات پہنچانے کے بعد یہ رقعہ دے دینا۔“ امام شعبی واپس آئے تمام پیغامات پہنچا دئے مگر رقعہ دنیا بھول گئے۔ باہر نکلے تو یاد آیا اور واپس جا کر قیصر کا رقعہ امیر المومنین کے حوالے کر دیا۔ عبدالملک نے رقعہ پڑھا اور پوچھا:-

”یہ رقعہ دینے سے پہلے قیصر نے کیا بات کی تھی۔“

”اس نے پوچھا تھا کہ تم شاہی خاندان سے ہو اور میں نے جواب دیا تھا نہیں بلکہ ایک عام سرب ہوں“ امام شعبی نے بتایا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے آگے دروازے ہی پر پہنچے تھے کہ عبدالملک نے دوبارہ بلا لیا اور کہا:-

”شعبی تم کو رقعے کا مضمون معلوم ہے؟“

”نہیں“ امام شعبی نے جواب دیا۔

”تو اور اسے پڑھو“ خلیفہ نے رقعہ دیتے ہوئے کہا لکھا تھا:-

” مجھے اس قوم پر حیرت ہوتی ہے کہ ایسے شخص کے ہوتے ہوئے اس نے ایک دوسرے شخص کو اپنا بادشاہ کیونکر بنا لیا۔“

امام شعبی نے کہا ” امیر المؤمنین اگر مجھے پہلے سے اس مضمون کا علم ہوتا تو اسے ہرگز نہ لاتا۔ اس نے یہ بات اس لیے لکھی کہ اس نے آپ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔“

” خیر اس کو تو رہنے دو۔ مگر تم سمجھے کہ اس لکھنے کا مقصد کیا ہے؟“

” نہیں امیر المؤمنین امام شعبی نے جواب دیا۔“

عبدالملک نے کہا ” قبصر نے مجھے تمہارے خلاف بھڑکا کر تمہارے قتل پر آمادہ کرنا چاہا ہے۔“

جب عبدالملک کا یہ قول قبصر تک پہنچا تو اس نے کہا۔

” مسلمانوں کے بادشاہ نے صحیح سمجھا میرا ہی مقصد تھا۔“

## دولت دنیا پر دین کو ترجیح

حضرت سعید بن مسیب کی لڑکی نہایت حسین و جمیل اور زیور تعلیم و تربیت سے آراستہ تھی۔ خلیفہ عبدالملک اپنے ولی عہد کے لیے اس کا رشتہ چاہتا تھا

مگر حضرت سعید امراؤ سلاطین کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ان کی زندگی کو سرا سر غلط سمجھتے تھے انہوں نے صاف انکار کر دیا، عبد الملک نے سختیاں بھی لیں مگر وہ رضامند نہ ہوئے۔

اس کے برعکس انہوں نے اس کو سرگرمایہ کو ایک غریب مگر دین دار آدمی کے حوالہ کر دیا۔

ابو دواعہ قرینہ کا ایک معمولی اور غریب فرد تھا اور حضرت سعید کی خدمت میں پابندی کے ساتھ حاضر رہتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ چند روز تک غیر حاضر ہوا جب آیا تو پوچھا "اتنے دن کہاں غائب رہے؟"

"میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے حاضر نہ ہو سکا" ابو دواعہ نے کہا۔  
 "تم نے مجھے کیوں خبر نہ کی میں بھی تجھ پر تکلیف میں شریک ہوتا۔"  
 ابو دواعہ نے کہا "میں نے خیال کیا آپ کو کیا زحمت دوں" پھر ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھنے لگا تو حضرت سعید نے پوچھا۔  
 "تم نے دوسری بیوی کا کوئی انتظام کیا؟"

"حضرت میں غریب و نادار آدمی ہوں مجھے کون اپنی فرزندگی میں قبول کرے گا۔" ابو دواعہ نے عرض کیا۔

"میں کروں گا۔ تم تیار ہو؟" حضرت سعید نے فرمایا۔  
 "حضرت اس سے زیادہ میری کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے" ابو دواعہ نے کہا۔



حضرت سعید نے اسی وقت چند درہم مہر پر ابو داغہ سے اپنی لڑکی کا نکاح پڑھا دیا۔ ابو داغہ کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مگر اس کو یہ فکر لاحق تھی کہ رخصتی کے لیے ضروری ساز و سامان کہاں سے لاؤں گا۔ لیکن حضرت سعید نے اس مشکل کو بھی حل کر دیا۔

شام کے وقت اپنی لڑکی کو ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ پہلے دو رکعت نماز خود پڑھی پھر دو رکعت نماز لڑکی سے پڑھوائی۔ اس کے بعد اپنی جگر گوشہ کو ہمراہ لے کر اپنے دادا ابو داغہ کے گھر پہنچے وہ روزہ افطار کر کے بیٹھے ہی تھے کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ ابو داغہ نے پوچھا "کون؟"

"میں ہوں سعید"

"یا الہی سعید بن مسیب تو اپنے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں آتے جاتے نہیں یہ سعید کون ہیں؟ ابو داغہ نے اپنے دل میں کہا پھر اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ شیخ سعید بن مسیب ہیں۔ اس نے معذرت کے طور پر کہا:

"حضرت مجھے طلب فرمایا ہوتا خود تشریف آوری کی زحمت کیوں فرمائی۔"

"نہیں مجھے تمہارے پاس آنا چاہئے تھا۔ تم مجر د ہو اور تمہاری بیوی موجود ہے میں نے کہا کہ تنہا کیوں رات بسر کرو، اس لیے تمہاری بیوی کو لے کر آیا ہوں۔"

لو یہ تمہاری بیوی ہے۔" یہ کہہ کر اپنی لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو شرم سے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ پھر لڑکی کو دروازے کے اندر کر کے کواڑ بند کر دئے

اور شریف لے گئے ابو داعہ مسرت حیرت اور استعجاب کا پیکر بنے ہوئے تھے۔  
 اس پیکرِ عفت کو لے کر اندر آئے اور پھر چھپت پر چڑھ کر پڑوسیوں کو لپکارا  
 اور اپنی شادی کا اعلان کیا کہ آج سعید بن مسیب نے اپنی لڑکی کا نکاح میرے  
 ساتھ کر دیا اور اسے میرے گھر پہنچا گئے ہیں۔ ابو داعہ کی ماں کو خبر ہوئی  
 تو وہ دوڑی دوڑی آئیں اور کہا کہ اگر بغیر سنوارے ہوئے تم اس کے پاس گئے  
 تو تمہاری صورت نہ دیکھوں گی، چنانچہ تین دن تک دستور کے مطابق دہن  
 کو بنایا سنوارا۔ چپ تین دن کے بعد دیکھا تو وہ چندے کے آفتاب چندے  
 ماں تباب کھتی۔ علم و فضل کے زیور سے آراستہ حافظ قرآن حدیث کی عالم اور  
 حقوق شنوہری سے باخبر۔

## عیب پوشی

اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالنا بھی اسلامی اخلاق کا ایک ضروری  
 جزو ہے اور بعض اوقات اس کے اثرات پردہ دری سے بہتر مرتب ہوتے ہیں  
 ان طرح ایک روز صبح کو باہر نکلے تو ایک شخص کو نشے کی حالت میں پایا۔  
 اس کو زبردستی اپنے گھر گھسیٹ لائے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن مسیب کی

خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا " میں نے ایک آدمی کو نشے کی حالت میں پایا ہے۔ اب کیا کروں اس کو حاکم کے سپرد کر کے حد جاری کروں؟ "

حضرت سعید نے جواب دیا۔

" اگر تم اس کو اپنے کپڑوں میں چھپا سکو تو چھپا لو۔ "

ابن حوطہ گھرواپس آئے۔ اتنے میں اس شخص کا نشہ بھی اتر چکا تھا۔ ان کو دیکھ کر فرط ندامت سے اس کا چہرہ عرق آلود ہو گیا۔ ابن حوطہ نے کہا،

" تمہیں شرم نہیں آتی اگر تم صبح کو اس حالت میں بکڑے لیے جاتے تو کیا ہوتا، تم پر حد جاری ہوتی اور تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ تمہاری آبرو خاک میں مل جاتی اور تمہاری شہادت تک نہ قبول کی جاتی۔ "

اس شرابی پر اس احسان آلود نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ شراب نوشی سے تائب ہو گیا۔



## تلاوت قرآن سے ضعف

حضرت اسود بن یزید نالعی روزانہ تلاوت قرآن کرتے تھے جس میں الموت میں بھی اس معمول میں فرق نہ آیا۔ جب ضعف و تقاہت سے جنبش کی بھی

طاقت نہ تھی۔ اپنے بھانجے ابراہیم نخعی کا سہارا لے کر قرآن پڑھتے تھے،  
 دم آخر ہدایت کی کہ مجھے کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا تاکہ جب دم نکلے تو زبان پر کلمہ  
 لا الہ الا اللہ ہو۔

## ○ سلام کرنا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اَشْرُوا السَّلَامَ سَلَامٌ بھپلاؤ۔  
 اسلامی معاشرے میں لوگ ہر ملنے والے کو سلام کرتے ہیں خواہ واقف ہو یا  
 ناواقف۔

حضرت عبدالرحمن بن اسود ایک بزرگ تابعی تھے۔ ان کی عادت تھی کہ  
 حیب باہر نکلتے تو جو شخص راہ میں ملتا اسے سلام کرتے۔ یہاں تک کہ یہودی اور  
 نصرانی کو بھی سلام کرتے تھے۔ ان کے ایک دوست نے ان سے کہا "آپ  
 ان مشرکوں کو بھی سلام کرتے ہیں؟"

"سلام مسلمان کی نشانی ہے۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں تاکہ یہ پہچان لیں کہ

میں مسلمان ہوں۔"

عبدالرحمن نے برحسبہ جواب دیا۔

## دشمنوں سے محبت

عامر بن عبداللہ عنبری ایک خدا پرست اور عابد و زاہد تابعی تھے ان کے دشمنوں نے سیاہی اختلافات کی بنا پر امیر معاویہؓ کے کان بھرے اور ان کو بصرہ سے شام بھیج دیا گیا۔ بعد میں جب تمام الزامات غلط ثابت ہوئے تو ان کی واپسی کی اجازت دے دی گئی۔ امیر معاویہؓ نے فرمایا:

”آپ کا جی چاہے تو آپ بصرہ واپس جاسکتے ہیں۔“

”اب میں ایسے شہر میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جہاں کے باشندوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا“ عامر نے جواب دیا۔

عامر نے یقیناً زندگی شام ہی میں گذاری مگر اپنے دشمنوں کے حق میں بھی وہ دعا ہی کرتے تھے بددعا نہیں دیتے تھے۔ وہ دعا کیا کرتے تھے:

”خدا یا جن لوگوں نے میری سچائی کہائی ہے اور مجھے میرے وطن سے نکلوا یا اور میرے بھائیوں سے مجھ کو جدا کر لیا ہے، ان کے مال اور ان کی اولاد میں ترقی دے انہیں تندرست رکھ اور ان کی عمر بڑھا“

# سچائی

اسلامی زندگی کی بنیاد صدق اور سچائی ہے۔ ہمارے اسلاف کے کردار کا یہ بنیادی تہ و تھا۔ حضرت سالم بن عبداللہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے خلیفہ الصدق تھے۔ ایک ممتاز تابعی مفسر محدث اور فقیہ تھے۔ ایک روز کپڑا خریدنے بازار گئے۔ مردان بن جبیر ایک بزاز تھا تو وہ اس کا بیان ہے کہ سالم میری دکان پر آئے اور مجھ سے ایک کپڑا جسے "ست گزا" کہتے تھے طلب کیا۔ میں نے ان کے سامنے ست گزا پھیلا دیا۔ انہوں نے ناپنے کو کہا مگر وہ سات گز سے کچھ کم نکلا۔

سالم: تم نے کہا تھا کہ یہ ست گزا ہے۔

مردان: جی ہاں اسے "ست گزا" ہی کہتے ہیں۔

سالم: مگر یہ تو سات گز سے کم ہے۔

مردان: یہ سات گز سے کم ہوتا ہے مگر عرف عام میں اسے ست گزا ہی

کہتے ہیں۔

سالم: اور اس کا نام بھی جھوٹ ہے۔

اسلامی زندگی کی پاکیزگی جھوٹ کا خفیہ شاہد ہے اور انہیں کرتی۔

## مشم و حیا

ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھ لیاں کھولے لیٹے سوئے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آئے اور اجازت چاہی، آپ نے انہیں اندر بلا لیا اور ویسے ہی تشریف فرما رہے۔ پھر حضرت عمر آئے اور اجازت طلب کی، آنحضرت نے ان کو بھی بلا لیا اور بدستور لیٹے رہے، اتنے میں حضرت عثمان بھی آگئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اندر بلا لیا اور خود اٹھ کر بیٹھ گئے اور بیٹھوں پر کپڑے کو درست کر لیا۔

مختصری دیر کے بعد یہ حضرات چلے گئے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا "یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر آئے تو آپ نے جنبش نہ کی۔ عمر آئے تو آپ ویسے ہی لیٹے رہے، مگر جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑے کو درست کر لیا۔ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟"

حمیرا! کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں عثمان حیا دار آدمی ہیں مجھے خیال ہوا کہ اگر اسی حالت میں ان کو اندر بلا لیا تو کہیں وہ حیا و مشم کے باعث واپس نہ چلے جائیں اور پوچھنا نہیں کہنا ہے وہ نہ

کہہ سکیں۔

## شرافت اخلاق

مسلمان امراء و سلاطین میں سے بعض اپنی شرافت اخلاق کے لیے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ پورے جلال و جبروت کے باوجود وہ اہل فضل و کمال کا احترام کرتے تھے۔

حضرت سعید بن مسیب ایک حق گو۔ بے باک اور سلاطین و امراء کی سطوت سے بے نیاز بزرگ تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر تھے اور مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا کام ہو رہا تھا۔ خلیفہ ولید خود اس کام کی رفتار کو دیکھنے کے لیے آیا۔ حسب دستور تمام لوگوں کو مسجد سے نکال دیا گیا۔ حضرت سعید ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے یاد خدا میں مشغول تھے۔ ان کو اٹھانے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ ایک شخص نے ادب سے عرض کیا کہ آپ اس وقت اٹھ جاتے تو اچھا ہوتا انہوں نے جواب دیا :

”میرے اٹھنے کا جو وقت ہے اس سے پہلے نہیں اٹھوں گا۔“

”اچھا نہ اٹھئے مگر کم از کم اتنا تو کیجیے گا کہ جب امیر المؤمنین ادھر سے گذریں



تو سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے گا۔

”خدا کی قسم میں اس کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔“

حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے مرتبہ شناس اور ان کی طبیعت سے واقف تھے اس لیے ولید کی نظر سے بچانے کے لیے اس کو دوسری سمتوں میں پھراتے رہے لیکن جب وہ قبلہ کی طرف بڑھا تو اس کی نظر سعید بن مسیب پر پڑ گئی۔ اس نے پوچھا :

”یہ کون بزرگ ہیں۔ سعید تو نہیں ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز نے مجبور ہو کر جواب دیا۔“ ہاں امیر المؤمنین! مگر امیر المؤمنین اب یہ بہت ضعیف ہو گئے ہیں۔ آنکھوں سے کھٹی کم دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کو پہچان سکتے تو سلام کے لیے ضرور اٹھتے۔“ ہاں میں ان کی حالت سے واقف ہوں، ان کو تکلیف دینے کی ضرورت

نہیں میں خود ان کے پاس چلتا ہوں۔“

اس کے بعد وہ گھومنا گھامتا حضرت سعید بن مسیب کے پاس پہنچا اور کہا۔

”شبخ کیسا مزاج ہے؟“

شبخ نے بیٹھے بیٹھے جواب دیا :

”الحمد للہ! اچھا ہوں کہنے آپ بھڑاج کیسا ہے؟“

اسی گفتگو کے بعد ولید یہ کہتا ہوا لوٹ گیا کہ یہ پرانی یادگاریں ہیں۔“



## بہترین عمل

حضرت محمد بن مسکن در مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور صاحب فضل و کمال تھے۔ امام مالک ان کو سید القراء کہتے تھے۔ ان سے ایک شخص نے پوچھا:

”آپ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟“

”مسلمانوں کو خوش کرنا“ محمد بن مسکن نے جواب دیا۔

”اور سب سے پسندیدہ دینا؟“ پوچھنے والے نے دوبارہ پوچھا۔

”دوستوں کے ساتھ سلوک کرنا“ سید القراء نے جواب میں فرمایا۔

## خوش اخلاقی

دلدری اور خوش اخلاقی اسلامی معاشرے کی جان ہے اس سے باہم تعلقاً خوشگوار رہتے ہیں۔ ”دل بدست اور کہ حج اکبر سست“ ایک مشہور مقولہ ہے۔ حضرت مسقر بن کدام دوسروں کے جذبات کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ اگر کبھی کوئی شخص انہیں ایسی حدیث سنا تا جس کو وہ اس شخص سے زیادہ جانتے ہوتے

تو صرف اس خیال سے کہ اس کی دل شکنی نہ ہو۔ وہ انجان بن کر نہایت خاموشی سے حدیث سنتے رہتے اور اس پر مطلق ظاہر نہ کرتے کہ وہ حدیث اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس طرز عمل میں حدیث کے احترام کا جذبہ بھی شامل ہوتا تھا۔



## پابندی عہد

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں ایرانیوں نے ایک آخری کوشش اسلام کے سیلابِ فتوحات کو روکنے کے لیے کی اور کمسن یزدگرد کی سرپرست پوران دخت نے خراسان کے گورنر رستم کو جو شجاعت و تدبیر میں مشہور تھا وزیر جنگ بنا کر جنگی مہمات اس کے سپرد کر دیں۔ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو عبیدہ کو ایک ہزار لشکر دے کر ایرانیوں کی فوج و شوکت توڑنے کے لیے روانہ فرمایا۔

ابو عبیدہ ابھی رستے میں تھے کہ رستم نے اصلاحِ قرأت میں غارتگری دیا اور مفتوحہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ پوران دخت نے ایک عظیم لشکر فوج نرسی اور جبابان دو سپہ سالاروں کی سرکردگی میں روانہ کی حالات بے حد ناگوار تھے اور مسلمانوں کو سخت آزمائش تھا چنانچہ جب جبابان کی فوج نرسی

پہنچ کر حضرت ابو عبیدہ کی فوج سے نبرد آزما ہوئی تو مجاہدین اسلام نے اس جوش کے ساتھ حملہ کیا کہ ایرانی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس کے مشہور سردار مارے گئے اور سپہ سالار جاپان گرفتار ہو گیا۔ لیکن جس مجاہد نے اسے گرفتار کیا تھا وہ اسے پہچانتا نہیں تھا۔ جاپان نے اس سے کہا میں پوڑھا آدمی تمہارے کس کام کا ہوں معاوضے میں دو غلام لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ سادہ دل مسلمان دھوکے میں آ گیا اور اس نے منظور کر لیا۔

جب اسے رہا کیا جا رہا تھا تو اس کی حقیقت معلوم ہو گئی اور مسلمانوں نے شور مچایا کہ ایسے اہم دشمن کو چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن سپہ سالار اسلامی نے کہا۔ اسلام میں بد عہدی جائز نہیں۔ ایک معمولی سپاہی ہی نے سہی، مگر جو شرط اس سے کی گئی ہے اس کو پورا کیا جائے گا چنانچہ جاپان جیسے دشمن کو چھوڑ دیا گیا۔



## مالِ باپ کی خدمت

مالِ باپ کا ادب خدمت اور اطاعت اسلامی زندگی کا لازمی جز ہے محمد بن سیرین کی والدہ حجازی تھیں اور ان کو رنگین اور نفیس کپڑوں کا شوق تھا۔ ابن سیرین والدہ کے اس شوق کا بے حد لحاظ رکھتے اور حیب کپڑا خریدتے

تو اس کی نرمی اور لطافت کو دیکھتے۔ پختگی کا خیال نہ کرتے۔ عید کے لیے اپنے پانچہ سے اپنی ماں کے کپڑے رنگتے، ماں کے سامنے کبھی بلند آواز سے نہ بولتے اس طرح گفتگو کرتے گویا کوئی راز کی بات کہہ رہے ہیں۔

## صحبت بد سے اجتناب

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے مگر وزغ و تقویٰ اور نیکی و پاکبازی ان کی سیرت کے نمایاں خصلت تھیں۔ زمانہ جاہلیت کا واقعہ ہے۔ ایک شخص ان کو کسی نامعلوم رستے سے لے چلا اور فخر کے طور پر کہا کہ ”یہ وہ راستہ ہے جس میں ایسے بد معاش اور آوارہ منش لوگ رہتے ہیں، کہ اس طرف سے گزرنے میں بھی حیا دامن گیر ہوتی ہے۔“ حضرت ابو بکر نے سنا تو وہیں رُک گئے اور کہا ”میں ایسے شرمناک رستے سے نہیں جا سکتا۔“

# جفا کشی

حضرت احنف بن قیس تابعی بڑے جفاکش تھے۔ سخت سے سخت موسم میں بھی تیمم نہ کرتے اور برف آلود پانی سے وضو کر لیتے۔ خراسان کی مہم میں ایک شب کو نہانے کی حاجت ہو گئی۔ سخت سردی کا موسم تھا اور خراسان کا علاقہ۔ حضرت احنف نے اپنے کسی خادم اور سپاہی کو بھی نہ چکایا۔ تن نہ پانی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ رستے میں گانٹھے دار جھاڑیاں تھیں اور شب کی سردی میں سمبھتر کی نیتری تھی۔ مگر وہ مرد جزا پانی کی تلاش میں بڑھا چلا گیا۔ کانٹوں سے دونوں پاؤں لہو بہان ہو گئے۔ بالآخر ایک جگہ برف کی تہ تک پہنچے اور اس کو ٹوڑ کر برف آلود پانی سے غسل کیا۔



## قوت حافظہ

قوت حافظہ مسلمان اہل علم کا ایک امتیازی وصف تھا۔  
 ہشام بن عبد الملک نے امام محمد بن شہاب زہری سے درخواست کی

کہ اس کے لڑکے کے لیے کچھ احادیث لکھ دیجیے۔ امام زہری نے واقفے سے چار سو حدیثیں ناکم بند کرادیں۔

ایک مہینہ کے بعد منام نے کہا "وہ مجموعہ کلم ہو گیا براہ کرم دوبارہ وہی حدیثیں لکھواد دیجیے۔"

امام زہری نے پھر وہی حدیثیں لکھوادیں۔  
منام نے دونوں مسودات کا مقابلہ کیا تو ایک حرف کا فرق نہیں تھا۔

## استقامت

کفار قریش دعوت اسلام کی ترقی سے سخت پریشان تھے اور مشورہ کر رہے تھے کہ اس مصیبت کا کیا علاج کیا جائے۔ عمر بن خطاب جو قریش کے مرد آہن اور آتش مزاج فرد تھے برہم ہو کر اٹھے اور قسم کھائی کہ آج اس جھگڑے کو چکا کر ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گلے میں تلوار جمائل کئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ مسلمانوں کو بھی ان سازشوں اور مشوروں کی پل پل کی خبریں مل رہی تھیں اور لوگ قدرتی طور پر تشویش میں مبتلا تھے۔  
عمر بن خطاب غصے میں بھرے جا رہے تھے کہ راہ میں نعیم بن عبد اللہ

مل گئے۔ بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر پوچھا :

”عمر خیر تو ہے۔ کدھر کا ارادہ ہے؟“

”آج محمدؐ کا فیصلہ کرنے جانا ہوں۔ جو سارے بتوں کا انکار کرتے اور ایک

خدا کی عبادت کی تلقین کرتے ہیں۔ عمر نے جواب دیا۔

”مگر عمر پہلے اپنے گھر کی تو خیر لو“ نعیم نے اطلاع دی ”بعد میں بائیس کی فکر کرنا۔“

”کیوں میرے گھر کو کیا ہے“ عمر نے پوچھا۔

”تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں“ نعیم نے بتایا۔

”اچھا یہ بات ہے بہتر ہے پہلے انہی کی خیر نیتیا ہوں“ عمر نے اعلان کیا۔

گھوڑی دیر میں عمر اپنی بہن کے مکان کے دروازے پر تھے۔ اندر سے کچھ

پڑھنے کی آواز آرہی تھی، غضبناک عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا بہن بھائی کا انداز

پاگئیں۔ قرآن چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ داخل ہوتے ہی عمر نے پوچھا ”یہ تم

کیا پڑھ رہی تھیں“

”آپ کو اس سے کیا شرم“ بہن نے نرمی سے جواب دیا۔

مجھ سے چھپانے کی کوشش بے فائدہ ہے میں سن چکا ہوں۔ تم دونوں

بے دین (صابی) ہو گئے ہو۔“

عمر نے خشمگین لہجے میں جواب دیا، اور یہ کہہ کر وہ بہنوئی پر پل پڑے اور

ان کو مادنا شروع کر دیا خاوند کو بچانے کے لیے ان کی بیوی درمیان میں آگئیں



غضبناک غمزنے بہن کی بھی کچھ پروا نہ کی اور اس کو بھی بے تحاشا پیٹا بہاں تک کہ  
ان کے بدن سے لہو ٹپکنے لگا۔ مگر پیکر ایمان و استقامت بہن نے کہا "غم غم علیہ  
مجھے زبان سے مار ڈالو مگر ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔"

یہ اعجاز تیر کی طرح غم کے سینے میں اتر گئے۔ ایک طرف عزیز بہن کا  
لہو بہاں جسم۔ دوسری طرف اس کا غم آہنیں۔ غم کے قلب و روح میں تیر  
کی طرح اتر گیا۔ اور آنسو بے اختیار ان کی آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ فولاد  
کا بنا ہوا دل موم کی طرح نرم ہو گیا۔ اور انہوں نے عاجزی سے کہا۔  
" اچھا۔ تم لوگ جو کچھ پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔"

فاطمہ بنت خطاب نے قرآن کے اوراق سامنے لا کر رکھ دیئے غم کی  
نگاہ پڑی تو یہ آیات تھیں:-

سُبْحٰنَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ، ۱۰۰  
مَلِكِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْبَحِیْمِ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَابِیْرٌ ،  
هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۔ هُوَ الَّذِیْ  
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِی سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ لَیْلَةَ  
مَیْلَاحٍ فِی الْاَرْضِ وَمَا یَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا نَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا یُعْرَبُ  
فِیْهَا وَهُوَ مَعَكُمْ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ ، ۱۰۱  
مَلِكِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْحِی الْاَلِیُّ الَّذِیْ تَرْجِعُ الْاُمُوْرَ ۔ یُوَلِّجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ

ویولج النهار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور (المحید)  
 عمر یہ الفاظ سن رہے تھے اور ان کا دل گچھل گچھل کر آنکھوں سے بہہ رہا  
 تھا جب لسان الہی کی یہ صدا کانوں میں پڑی ۔

امنوا باللہ ورسولہ ۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو گویا  
 بالف غیب نے تم کو براہ راست پکارا تھا وہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے :

اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمد رسول اللہ  
 اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور اسلام کو مٹانے کے لیے  
 تلوار لے کر چلا تھا خود کشتہ اسلام ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت  
 میں حاضر ہو گیا۔ ایک مسلمان خاتون کی استقامت علی الایمان نے وہ کرمہ  
 سر انجام دیا جس نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا ۔



حکومت و سیاست



## اطاعت رسول

اطاعت رسول کے معاملے میں اسلام کسی مصالحت اور خطرے کا قائل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے قبل حضرت اسامہ بن زید کی سرکردگی میں ایک مہم شام پر حملہ آور ہونے کے لیے مامور فرمائی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو پوری مملکت اسلامی خطرات میں گھبر گئی۔ نبوت کے مدعیان کاذب نے اٹھ کر اپنی لسیا ط نبوت جانے کی کوشش کی۔ منافقین نے اسلامی نظام کو پارہ پارہ کرنے کے لیے ریشہ دو ایناں متروخ کر دیں۔ فرزندین نے اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں نے اسلامی حکومت کی اطاعت سے سرتابی کا اعلان کر دیا۔ حضرت اسامہؓ فوج اسلام لیے مدینہ کے باہر یزید میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جو پرچم کھولے ان کو دیا تھا فصفا میں لہرا رہا تھا۔ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکرؓ کو مشورہ دیا کہ شام کی مہم کو ملتوی کر دیجئے اور اس فوج کو پہلے اندرون ملک کی شورشوں کا قلع قمع کرنے میں استعمال کیجئے لیکن حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہم مقرر فرمائی ہے میں اس کو منسوخ نہیں کر سکتا۔“

جو غلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے مقابلے کے لیے بند کیا ہے  
 نہ اس کو لپیٹ سکتا ہوں اور نہ اسامہ کو کسی دوسری جانب روانہ کر سکتا ہوں۔

لوگوں نے کہا امیر المؤمنین اس وقت خود مدینہ خطرے میں ہے یہ مناسب  
 نہیں کہ فوج کو باہر کی مہم پر بھیجا جائے۔ اس پر آپ نے برہم ہو کر فرمایا :

"خدا کی قسم اگر مدینہ اس طرح آدمیوں سے خالی ہو جائے کہ درندے آکر میری  
 ٹانگ کھینچنے لگیں تب بھی میں اس مہم کو نہیں روکوں گا۔"

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حسب حکم فوج کو لے کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ  
 پیادہ پا ان کی سواری کے ساتھ دوڑتے گئے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا۔

"امیر المؤمنین خدا کے لیے آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جائیے۔ ورنہ میں بھی  
 اترتا ہوں۔"

امیر المؤمنین نے فرمایا "اسامہ! خدا تمہاری مدد کرے اس میں کیا مضائقہ ہے  
 اگر میں تھوڑی دیر تک اپنے پاؤں غبار آلود کروں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ  
 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے ہر قدم کے عوض سات سو نیکیاں لکھی  
 جاتی ہیں۔"



## حضرت عمرؓ کا ایک خطبہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو ان سے بیان کیا گیا کہ لوگ آپ کی طبیعت کی سختی کی بنا پر خائف ہیں کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے یہ سن کر انہوں نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور منبر پر چڑھ کر تقریر کی۔

"مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ میری سختیوں سے گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمرؓ پر سختی کرتا تھا۔ پھر حضرت ابوبکرؓ خلیفہ ہوئے تو ان کے عہد میں بھی عمرؓ کے ساتھ سختی سے پیش آتا رہا اور اب تو وہ خود خلیفہ ہو گیا۔ خدا جانتے اب وہ کیا کرے گا۔

لوگوں نے سچ کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم ہوں ان کی رحمت و شفقت کا درجہ کون حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رؤف و رحیم کہا ہے، جو خود اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ میں اس حالت میں تیغ بر سر ہنہ ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ اک تیغ بر سر ہنہ کو میان میں ڈال دیتے تھے یا بر سر ہنہ رکھتے تاکہ وہ اپنا وار پورا کرے۔ حضرت ابوبکرؓ بھی نرم خو اور حلیم تھے۔ میں ان کا بھی خادم و مددگار تھا۔ ان کی نرمی کے ساتھ میں اپنی سختی کو ملا دیتا تھا اور تیغ بے نیام ہو جاتا تھا۔ وہ چاہتے تھے تو وار کرتے تھے ورنہ نیام میں ڈال دیتے۔

لیکن اب حیب کہ میں خود خلیفہ ہو گیا ہوں تو وہ سختی دوگنا ہو گئی ہے لیکن صرف  
ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں پر ظلم کریں گے۔ رہے نیک اور دیانتدار لوگ  
تو میں ان کے لیے اس سے زیادہ نرم خو ہوں جس قدر وہ باہم زعم خوہیں۔  
لوگوں نے یہ سنا تو مطمئن ہو گئے۔

## اسلامی حکومت کی خصوصیت

جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کر لی تو  
وہ منبر پر تشریف لے گئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا:

” لوگو! میں تمہارا احکام بنایا گیا ہوں، مگر میں تم سب سے بہتر نہیں ہوں۔  
اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، اگر برائی کی طرف جاؤں تو مجھے سیدھا  
کردو، میں سچائی کو شعار بناؤں گا کیونکہ صدق امانت ہے اور جھوٹ سے  
اجتناب کروں گا کیوں کہ جھوٹ خیانت ہے۔ تمہارا ضعیف بھی میرے نزدیک  
قوی ہوگا۔ حیب تک کہ میں اس کا حق نہ دلا دوں اور تم میں جو قوی ہے وہ میرے  
نزدیک ضعیف ہوگا۔ حیب تک کہ اس سے دوسروں کا حق نہ دلا دوں انشاء اللہ  
جو قوم جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیتی ہے خدا اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے اور



جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے۔ خدا اس کی مصیبت کو بھی عام کر دیتا ہے۔  
 اگر میں خدا و رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو۔ اگر خدا و رسول کی  
 نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں۔ — اچھا اب نازکے لیے  
 کھڑے ہو جاؤ، تم پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔

## اسلامی حکومت کے اثرات

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایران کا بادشاہ بزدگرد  
 غازیان اسلام کی تاب نہ لا کر بھاگا اور خاقان چین کی مملکت کی حدود میں نکل  
 ہو گیا۔ خاقان نے اس کو نہ صرف پناہ دی بلکہ ایک لشکر جرار لے کر اس کی مدد  
 کے لیے خراسان پہنچا اور بلخ سونا سوا مرو کی طرف بڑھا۔ لیکن حضرت اسحاق  
 بن قیس تابعی نے فوج لے کر راہ میں اس کو روک دیا۔ چند روز کے بعد خاقان  
 نے مایوس ہو کر فوج کو کوچ کا حکم دے دیا۔ حیب بزدگرد جو مرو کا محاصرہ کئے  
 ہوئے تھا۔ کو خاقان کی واپسی کی خبر ملی تو اس نے جی چھوڑ دیا اور نترانہ لے کر  
 ترکستان جانے کا ارادہ کر لیا لیکن خود ایرانیوں نے اس کو روکا اور کہا کہ ترکستانیوں  
 کا کوئی دین و مذہب نہیں مگر مسلمان ایک پابند مذہب، اور پابند عہد قوم ہے۔ اگر

آپ اپنا ملک چھوڑنا ہی چاہتے ہیں تو مسلمانوں سے صلح کر لیجئے۔ مگر وہ نہ مانا۔  
 اہل پراکھوں نے یہ دیکھ کر کہ ملک کی دولت باہر جا رہی ہے۔ لڑکر یزدگرد  
 سے کل خزانہ چھین لیا اور یزدگرد خالی ہاتھ ترکستان بھاگ گیا۔  
 یزدگرد کے فرار کے بعد ایرانیوں نے حضرت احنف بن قیس سے جو مسلمانوں  
 کے سپہ سالار تھے صلح کر لی اور ایران کا پورا خزانہ ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت  
 احنف نے ان کے ساتھ اتنا شریفانہ برتاؤ کیا کہ ایرانی افسوس کرتے تھے کہ وہ  
 اب تک مسلمانوں کی حکومت کی برکات سے کیوں محروم رہے۔



## تفاد احکام اسلام

اسلام کے احکام کا نفاذ اسلامی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد  
 پورا نہیں ہوتا تو اسلامی زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔  
 حضرت ابوبکر کی خلافت کے آغاز کے ساتھ ہی ایک گروہ نے زکوٰۃ دینے  
 سے انکار کر دیا اور کہا ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے۔ اب نہیں  
 دیں گے۔ یہ گروہ توحید و رسالت کا اقرار کرتا تھا اور مسلمان ہونے کا مدعی تھا مگر  
 حضرت ابوبکر نے حکم دیا؛

” منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی ہوائے “  
 ” امیر المؤمنین! آپ ایک ایسی جماعت کے خلاف تلوار کس طرح اٹھائے  
 ہیں جو توحید و رسالت کا اقرار کرتی ہے اور صرف زکوٰۃ کی منکر ہے “ حضرت  
 عمرؓ نے عرض کیا۔

” خدا کی قسم! اگر ایک بکری کا بچہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا  
 تھا۔ اور کوئی شخص دینے سے انکار کرے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔“  
 حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا۔

” لیکن مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے آپ کے ہمراہ کون نکلے گا؟  
 لوگوں نے کہا۔

” اگر کوئی شخص نہیں نکلے گا تو ابو بکرؓ تنہا نکل کھڑا ہوگا۔“ امیر المؤمنین نے اعلان  
 فرمایا اور اس جواب کو سن کر لوگوں کے دلوں کا تذبذب دور ہو گیا۔  
 منکرین زکوٰۃ کو بارگاہِ خلافت کا یہ بیہوش سمیم معلوم ہوا تو ان کے ہوش ٹھکانے  
 آگئے اور وہ زکوٰۃ سے گریہ کر مدینہ حاضر ہو گئے۔



تبلیغ اسلام

مغفلوں اور منافقوں کی سہولت کے لیے کئی کئی بار ایک آدھ بیٹے

حلقہ بگوش ہو جانا ہے لیکن حیب اسلامی زندگی اپنے پورے تقاضوں کے ساتھ برسرِ عمل ہوتی ہے تو کفر کی دنیا کی دنیا کو الٹ کر رکھ دیتی ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے برسرِ حکومت آتے ہی حکم دیا کہ جو ذمی اسلام قبول کر لے اس کا جزیہ معاف کر دیا جائے۔ اس سے قبل قبول اسلام کے بعد بھی ذمی کا جزیہ قائم رہتا تھا۔ نبی امیہ کے حکمرانوں کے نزدیک اس غیر اسلامی حکم میں مصلحت یہ تھی کہ آمدنی نہ ماری جائے اور خزانہ سرکاری میں کمی واقع نہ ہو۔

جب عمر بن عبدالعزیز کے فرمان پر عمل ہوا تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہونے لگے اور علاقے کے علاقے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ تنہا جراح بن عبداللہ عکلیٰ والے خراسان کے ہاتھ پر چار ہزار ذمی مسلمان ہوئے۔ اسمعیل بن عبداللہ بن ابی المرہا جو مغرب کے گورنر تھے۔ ان کی تبلیغ سے سارے مغرب میں اسلام پھیل گیا۔

اس سے ابتداء میں خراج کی آمدنی ضرور کم ہوئی اور بعض والیوں نے لکھا

”امیر المؤمنین خزانہ خالی ہو رہا ہے۔“

امیر المؤمنین نے جواب میں تحریر فرمایا۔ ”مجھ رسول اللہ ہادی و رہنما بنا کر بھیجے گئے تھے محصل خراج بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔“

لیکن یہ کسی بھی زیادہ دیر قائم نہ رہی اور جائز طریقوں سے محاصل میں اتنا جو بڑھنا لگتا تھا وہ پہلے دور سے بھی بڑھ گیا اور عراق کی آمدنی حجاج کے دویم

سے بھی بڑھ گئی۔ عمر بن عبدالعزیز کو معلوم ہوا تو فرمایا جذا حجاج پر لعنت کرے  
اس کو نہ دین کا سلیقہ تھا نہ دنیا کا۔ اس نے اپنے ظالمانہ طریقوں کے ذریعے  
عراق سے ۲ کروڑ اسی لاکھ درہم وصول کئے مگر میرے دور میں ۲۱ کروڑ چالیس  
لاکھ درہم وصول ہوئے تھے۔



## احمال و ذمہ داری

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مندرجہ خلافت پر فائز ہونے سے پہلے بڑے عیش  
کی زندگی بسر کرتے تھے۔ مشرق لباس اور نفاست مزاج کی یہ حالت تھی  
کہ جب ان کے کپڑوں پر ایک مرتبہ دوسروں کی نظر پڑ جاتی تھی تو انہیں پرانا  
سمجھنے لگتے تھے خوشبو کے لیے عنبر کا سفوف دارھی پر چھپڑکتے تھے۔ ہر وقت  
عطر میں بسے رہتے تھے۔ حیب مدینہ کے گورنر مقرر ہو کر روانہ ہوئے تو  
تیس اونٹوں پر ان کی ذاتی سامان لدا ہوا تھا۔

لیکن حیب ان کے ذمہ دار کا نہ ہوں پر مسلمانوں کی مخالفت کا ہارا پڑا تو  
معا بالکل بدل گئے اپنے پیش رو خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کی تجہیز و تکفین سے  
فراغت کے بعد حسب معمول ان کے سامنے شاہی سواریاں پیش کی گئیں پوچھا

”یہ کیا ہیں؟“

”یہ شاہی سواریاں ہیں“ خدام نے عرض کیا۔

”میرے لیے میرا بچہ کافی ہے“ خلیفہ راشد نے کہا اور سب سواریاں واپس کر دیں اور کچھ روز کے بعد شاہی مصطلب کے تمام جانوروں کو بیچ کر ان کی قیمت بیت المال میں داخل کرادی۔ گھرائے تو چہرے سے پریشانی کے آثار مہویدا تھے۔ لونڈی نے پوچھا:

”امیر المؤمنین آپ شاید کچھ متفکر ہیں؟“

عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا۔

”اس سے زیادہ نکر و تشویش کی بات کیا ہوگی کہ مشرق و مغرب میں امت محمدیہ کا کوئی فرد ایسا نہیں جس کا حق مجھ پر نہ ہو اور مطالبہ و اطلاع کے بغیر اس کا ادا کرنا مجھ پر فرض نہ ہو۔“

ایک روز عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر میں رو رو کر دعائیں کر رہے تھے۔ روتے روتے آنکھ لگ جاتی جب کھلتی تو پھر یہی مشغلہ جاری ہو جاتا ان کی بیوی فاطمہ نے جو ایک جلیل القدر خلیفہ عبدالملک کی بیٹی تھیں اور خاوند کے بدلنے کے ساتھ ہی بدل گئی تھیں اس حال میں دیکھ کر پوچھا:

”آپ آج اس حالت میں کیوں ہیں؟“

”بی بی تمہیں اس سے کیا عرض؟ خاوند نے ٹالنے کے لیے کہا۔“

” میں بھی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتی ہوں بیوی نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جن کا رواں رواں خلافت کی ذمہ داریوں کے

احساس سے لبریز تھا بولے :

میں اپنے بارے میں غور کرتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس امت کے

چھوٹے بڑے اور سیاہ و سفید جملہ امور کا ذمہ دار ہوں اس لیے جب میں مجلس

غریب، محتاج، فقیر، گم شدہ قیدی اور اسی طرح کے دوسرے آدمیوں کو یاد

کرتا ہوں جو ساری مملکت میں پھیلے ہوئے ہیں اور جن کی ذمہ داری مجھ پر ہے

اور یہ سوچتا ہوں کہ خدا ان کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا اور رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق مجھ پر داد و ستد کی عدالت میں دعویٰ کریں گے

پھر میں اس وقت کیا جواب دوں گا۔ اگر خدا کے سامنے کوئی عذر اور شافع حاضر

کے سامنے کوئی عذر پیش نہ کر سکا تو میرا کیا انجام ہوگا، میں یہ سوچتا ہوں اولہ

میری نیند اڑ جاتی ہے۔ میرے آنسو بہتے لگتے ہیں۔ اور میرا دل خوف سے

دہل جاتا ہے۔

## شہید کا خون

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نصیحت دی تھی جو سلفینہ

کی مہم میں شریک ہوں گے۔ ۳۲ھ میں امیر معاویہؓ کی سرکردگی میں اس مہم کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ اس میں شامل ہونے کے لیے حضرت علقمہ بن قیس ایک ممتاز تابعی بھی لیے تاب تھے۔ اور وہ بھی شریک ہوئے۔ ایک مجاہد معتمد نے ایک بزم پر حملہ کرتے وقت سر پر پاندھنے کے لیے ان سے چادر مستعار لی اور شہادت پائی اور علقمہ کی چادر ان کے خون میں تر ہو گئی۔ علقمہ اس چادر کو بہت متبرک سمجھتے تھے اور اس کو اور بھ کر جمعہ میں جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اس کو اس لیے اورھتا ہوں کہ اس میں ایک شہید کا خون ہے شہید کے خون کا یہ اعزاز و احترام تھا جو اسلاف کرام کو جہاد و شہادت کے لیے لے تاب رکھتا تھا اور جہاد و شہادت کی یہ بے تالی ہی غلبہ اسلام اور ملت اسلامیہ کی اقبال مندی کی ضامن تھی۔



## منصب و عہدہ سے احتراز

عہدہ و منصب کی خواہش سے اسلامی زندگی کا دل بکیر پاک ہونا ہے۔ حکومت و اقتدار اس کے نزدیک ایک بار امانت ہے۔ جس کی جواب دہی نہایت سخت ہے لیکن حیب جان جو کھول کا معاملہ ہو۔ حیب کوئی اہم سرکردہ شانہ خدمت کی سرانجام دہی پیش نظر ہو اس وقت ایک مرد مجاہد اس خدمت کی



سرا انجام دہی کے سلسلے کا منصب و عہدہ قبول کرنے کی خواہش کر سکتا ہے  
اس لیے کہ وہاں اصل شے عہدہ و منصب نہیں ہوتا بلکہ وہ خدمت حق ہوتی  
ہے جو اس عہدے کے ذریعے ہی سرا انجام دی جا سکتی ہے۔

غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمانوں کو فتح حاصل کرنے میں بڑی دشواری پیش  
آ رہی تھی۔ خیبر کا یہودی سردار مرتب ایک سختہ کار جنگجو تھا، اور قلعہ نہایت  
مستحکم اور ناقابلِ تسخیر۔ مسلمانوں کا سیلاب جہاد بڑھ بڑھ کر حملہ کرنا اور پہاڑ کی  
چٹان سے ٹکرانے والے سمندر کی لہروں کی طرح واپس مڑ جانا۔

بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علم اپنے دست مبارک سے  
تیار کیا اور فرمایا "کل ہم یہ جھنڈا اس شخص کو دیں گے جو اللہ اور اللہ کے  
رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔"  
یہ کار اہم اور پھر اس کے ساتھ یہ نیا رت اور فتح کی نوید۔ یہ ایسے قیمتی  
امور تھے کہ صحابہ میں سے ہر شخص کا دل اس خواہش و تمنا سے لبریز ہو گیا کہ  
"کاش وہ خوش نصیب شخص میں ہوتا۔" اگلے روز یہ فتح و فیروز مندی کا علم  
حضرت علیؓ کے حصے میں آیا جو آشوب حشم میں مبتلا اور جنگ کے ناقابل  
تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ناؤں آنکھوں پر لعاب دہن  
لگایا اور وہ اللہ کی قدرت سے تندرست ہو گئیں۔ حضرت علیؓ میدان  
میں نکلے اور فی الواقع خیبر کا ناقابلِ تسخیر قلعہ ان کے ہاتھ پر اس طرح مسخر ہو گیا

گویا وہ کچی دیواروں کا مکان تھا۔  
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا: "آپ نے اپنی زندگی  
 میں کبھی عہدے کی خواہش بھی کی؟"  
 "منصب کی خواہش میرے دل میں کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ بجز اس ایک دن  
 کے جب غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا جھنڈا  
 اس شخص کو دینے کا اعلان فرمایا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا  
 ہے اور جس کے ہاتھ پر فتح مقدر ہے۔" حضرت عمرؓ نے جواب دیا۔

## فاسق کی قیادت بیزاری

اسلامی قیادت کے لیے وہی لوگ موزوں ہوتے ہیں جو اسلام کے مطیع  
 فرمان ہوں۔ جن لوگوں کی زندگیاں اسلام کی نافرمانی پر مبنی ہوں۔ ان پر  
 اعتما کرنا اسلامی معاشرے کے لیے مناسب نہیں۔ جو شخص خدا و رسول کا  
 وفادار نہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کب وفا کرے گا۔  
 حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیرؓ  
 نے مکہ معظمہ میں بنی امیہ کے مقابل خلافت کا دعویٰ کیا۔ بنی ثقیف کا ایک

اولوالعزم اور قسمت آزمائے شخص مختار بن عبید ثقفی ان کے ساتھ ہو گیا۔ لیکن  
عجب اس کی سوصلہ مندیوں اور اغراض دنیوی کی تکمیل نہ ہوئی تو ان سے جدا  
ہو کر اس نے حضرت حسینؑ کے خون معصوم کا انتقام لینے کا اعلان کر دیا اور  
مہمان حسین کو اپنی طرف بلائے لگا۔ اس نے امام زین العابدینؑ کی خدمت میں  
نذرانہ بھیجا اور درخواست کی کہ میں آپ کے والد کے قاتلوں کو سزا دینے کے لیے  
اٹھا ہوں۔ میری سرپرستی فرمائیے۔

امام موصوف اس کے حالات سے واقف تھے اس کی درخواست کو مسترد  
کر دیا اور مسجد نبوی میں آکر اس کے فسق و فجور کا پردہ چاک کیا اور علی الاعلان  
اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا،  
”یہ شخص لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے اہل بیت کو آڑ بنا رہا چاہتا ہے۔  
حقیقت میں اس کو اہل بیت کی محبت سے دور کا واسطہ بھی نہیں۔“

○

## ظالموں سے بیزاری

حضرت عروہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور حضرت  
عبداللہ بن زبیر کے بھائی تھے۔ بنی امیہ کا زمانہ تھا اور خالق خدا ان کے مظالم

سے عاجز تھی۔ حضرت غزوہ اور حضرت زین العابدین روزانہ عشا کے بعد مسجد نبوی کے ایک گوشے میں بیٹھتے۔ ایک روز زین العابدین نے کہا :

”غزوہ - بنی امیہ کے مظالم کو روکنے کی حیب ہم میں طاقت نہیں تو ان کے ساتھ رہنا کہاں تک مناسب ہے۔ ان کے مظالم کی پاداش میں خدا ان پر ایک دن عذاب نازل کرے گا۔“

”علی! جو شخص ظالموں سے علیحدہ رہے گا اور خدا اس کی بیزاری سے واقف ہوگا تو امید ہے کہ حیب ظالموں کو وہ کسی مصیبت میں مبتلا کرے گا تو ان سے علیحدہ رہنے والا شخص خواہ وہ محفوظ رہے ہی فاصلے پر ہوا اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔“

اس گفتگو کے بعد غزوہ مدینہ چھوڑ کر عقیق چلے گئے جو مدینہ کے قریب ہی ایک مقام ہے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو فرمایا -

”ان کی مسجدیں لہو و لعب اور بازار لغویات کا گہوارہ ہیں اور ان کے راستوں میں بے حیائیوں کی گرم بازاری ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کے ساتھ خدا کے عذاب کی لپیٹ میں نہ آجاؤں۔“

## ظلم میں تعاون سے اجتناب

ابو جعفر منصور عباسی ایک باجبروت خلیفہ تھا۔ اس عہد کے خلفاء اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے بے تحاشا ظلم کرتے تھے۔ ان کا ہاتھ روکنے والے اگر تھے تو صرف وہ اہل حق جو دین ہدایت کو سلجھالے ہوئے مسند کتاب و سنت پر متمکن تھے۔ ان بندگانِ حق پرست ہی کا یہ فیض ہے کہ دین حق اپنی اصل صورت میں محفوظ چلا آیا۔ اور اسلامی روایات جو دیدہ عالم پر ہمیشہ کے لیے ثابت ہو کر رہ گئیں۔

ابو جعفر منصور نے امام مالک اور عبداللہ بن طاؤس کو اپنے یہاں بلا یا دونوں بزرگ جا کر بیٹھ گئے کچھ دیر خاموشی رہی۔ بالآخر منصور نے گفتگو کا سلسلہ چھیڑنے کے لیے عبداللہ سے کہا "اپنے والد طاؤس بن کلبیان کی کوئی حدیث سنائیے" حضرت عبداللہ نے کہا:

"قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جو خدا کی حکومت میں شرک کرے گا۔ یعنی برسرِ اقتدار اگر ظلم کرے گا۔"

منصور نے یہ قول سننا تو بات پا گیا اور زہرے کے گھمونسے پی کر رہ گیا۔

امام مالک کہتے ہیں میں ڈرا کہ اب منصور کا نانا زبیر بن عتاب عبداللہ پر برسے گا۔

لیکن خیر ہوئی کہ منصور غصہ ضبط کر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد منصور نے تین مہینہ  
 عبداللہ سے کہا کہ "دوات اٹھا کر مجھے دیکھئے۔ مگر انہوں نے اس کی تعمیل  
 نہ کی۔ بالآخر منصور نے کہا "عبداللہ دوات کیوں نہیں اٹھا کر دیتے؟"  
 "اس لیے کہ اگر تم اس سے کوئی ظالمانہ حکم لکھو گے تو اس میں میری بھی شرکت  
 ہو جائے گی۔" عبداللہ نے برہتہ جواب دیا۔  
 منصور نے دونوں کو اپنے یہاں سے اٹھا دیا۔ عبداللہ نے باہر نکل کر  
 کہا "ہم یہی تو چاہتے تھے؟"  
 ایک سچا مسلمان کسی ایسے فعل میں اپنی شرکت گوارا نہیں کرتا جو خدا کو ناپسند ہو۔



## مصارف حکومت میں کفایت شعاری

(۱)

حکومت ایک امانت ہے اور مسلمانوں کا امیر اور حاکم مسلمانوں کا امین، اس کا  
 فرض امانت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے مال کی پوری پوری حفاظت کرے اور  
 ایک پائی نہ ضائع ہونے دے اور نہ ایک پائی کا اسراف کرے۔  
 حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیت المال کی حفاظت کا نہایت سخت انتظام

کیا تھا۔ ایک مرتبہ ان کو اطلاع ملی کہ یمن کے بیت المال سے ایک دینار گم ہو گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہاں کے افسر خزانہ کو لکھا کہ میں تمہیں بددیانتی کا الزام نہیں دیتا مگر بے پروائی کے ضرور مجرم ہو۔ میں مسلمانوں کی طرف سے ان کے مال کا مدعی ہوں اس لیے تم پر فرض ہے کہ شرعی قسم کھاؤ۔

(۲)

ابوبکر بن حزم نے سلیمان بن عبدالملک کے آخری عہد میں کاغذ قلم دعوات اور روشنی کے دفتری اثراجات کے اضافے کے لیے اجازت طلب کی تھی ابھی منظوری نہیں ہوئی تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا اور عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر جلوہ فرما ہو گئے۔ جب ابوبکر بن حزم کی درخواست ان کے سامنے پیش ہوئی تو دارالخلافہ سے ذیل کا تلخ جواب آیا۔

”ابوبکر! وہ دن یاد کرو جب تم اندھیری رات میں روشنی کے لہیرے کچھڑ میں اپنے گھر سے مسجد نبوی جاتے تھے، آج تمہاری حالت اس سے کہیں بہتر ہے۔ قلم باریک کر لو اور سطرین قریب قریب لکھا کرو۔ اپنی ضروریات میں کتنا سہارا ہے اس سے کام لو۔ میں مسلمانوں کے خزانے سے ایسی رقم صرف کرنا پسند نہیں کرتا جس سے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچے۔“

سبحان اللہ! سرکاری خزانے کے متعلق کتنا پاکیزہ اصول بیان فرما دیا۔



## حسن انتظام

حضرت احنف بن قیس کی سرکردگی میں ایک وفد اہل بصرہ کا حاضر ہوا۔  
اور اس نے امیر المومنین حضرت عمرؓ کی خدمت میں حسب ذیل عرضداشت  
پیش کی۔

”امیر المومنین۔ ہم ایک بنجر زمین میں آباد ہیں۔ اس کے مشرقی جانب کھاری  
سمندر ہے اور مغربی جانب بے آب و گیاہ میدان۔ ہمارے پاس مویشی ہیں  
نہ کھیت۔ اور نہ قریب میں پانی۔ دو کوس سے پانی لانا پڑتا ہے جسے عورتیں  
اور ضعیف لوگ لاتے ہیں۔ عورتیں پانی بھرنے جاتی ہیں تو بچوں کو بکری کی طرح  
گھر میں باندھ جاتی ہیں تاکہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور درندوں سے محفوظ رہیں  
کیا آپ ہماری اس مشکل کو حل نہ فرمائیں گے؟“

امیر المومنین نے اسی وقت حکم دیا کہ بصرہ کے بچوں کے وظیفے مقرر  
کر دیئے جائیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ جو حاکم بصرہ تھے ان کو لکھ بھیجا کہ  
بصرہ کے بچے ہر کھدوا دیں۔ چنانچہ وفد کا میاب و مسود واپس لوٹا اور اس کی  
بستی کے لوگوں کی مشکلات دور ہو گئیں۔



## رعایا کی خبر گیری

حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کو تشریف لے جا رہے تھے۔ اثنائے راہ میں ایک بڑھا ملا جس نے قافلے کو روک کر پوچھا۔

”تم میں رسول اللہ ہیں؟“

”نہیں۔ ان کا تو وصال ہو چکا“ حضرت عمرؓ نے جواب دیا۔ اس پر بڑھا

بے اختیار رونے لگا، پھر پوچھا:

”رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد کون خلیفہ ہوا؟“

”حضرت ابو بکرؓ“ حضرت عمرؓ نے بتایا۔

”وہ تم میں ہیں؟ بڑھے نے پوچھا۔“

”نہیں! ان کا بھی انتقال ہو گیا“ حضرت عمرؓ نے جواب دیا۔

”ان کے بعد کون خلیفہ ہوا؟“ بڑھے نے روتے ہوئے پوچھا۔

”عمرؓ“ سب نے کہا۔ حضرت عمرؓ نے کہا۔

”وہ تم میں ہیں؟“ بڑھے نے کہا۔

”میں عمرؓ کا خطاب ہوں“ حضرت عمرؓ نے بتایا۔

”تو میری فریاد رسی کیجئے۔ مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا جو میری ضروریات

میں میری مدد کرے۔“ بڑھے نے کہا۔

تم کون ہو۔ میں تمہاری فریادری کروں گا۔ انشاء اللہ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔  
 "میرا نام ابو عقیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعوتِ اسلام  
 دی۔ میں آپ پر ایمان لایا۔ آپ نے مجھے اپنے بچے ہوئے ستو پلاسے اور  
 میں اب تک بھوک اور پیاس میں اس کی لذت اور سیرابی کو محسوس کرنا ہوں۔  
 پھر میں نے بکریوں کا ایک گلہ لیا اور ان کو اب تک چراتا رہا۔ نماز پڑھتا ہوں  
 اور روزہ رکھتا ہوں مگر اس سال بد بختی نے ایک بکری کے سوا جس کا تم لوگ  
 دودھ پیتے تھے کچھ نہ چھوڑا اور اس کو بھی بھیر یا اٹھالے گیا۔ اب آپ میری  
 دستگیری فرمائیے۔" بڑھے نے تفصیل کے ساتھ حضرت عمرؓ سے عرض کیا۔  
 "تھوڑے فاصلے پر چشتیہ ہے۔ تم ہم سے وہاں ملو۔ حضرت عمرؓ نے  
 بڑھے کو ہدایت کی اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ اور اونٹوں کی گھنٹیوں سے فصا لہریز  
 ہو گئی۔"

منزل پر پہنچے تو حضرت عمرؓ ایک اونٹنی کی مہار پکڑے بڑھے کا انتظار  
 کرتے لگے۔ لیکن حیب اس کے آنے میں دیر ہوئی اور قافلے کی روانگی کا وقت  
 آگیا تو حضرت عمرؓ نے چشتیہ کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ "ابو عقیل نامی ایک بڑھا  
 آئے گا تم اس کو اور اس کے اہل و عیال کو کھلاتے پلاتے رہنا یہاں تک  
 کہ میں حج سے واپس آ جاؤں۔" اور قافلہ پھر آگے کو روانہ ہو گیا۔  
 حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو اس چشتیہ پر پہنچے اور اس کے مالک سے

پوچھا ابو عقیل کہاں ہے جس کی خدمت کرنے کے لیے میں ہدایت کر گیا تھا۔  
 ” امیر المؤمنین حبیب وہ آیا تو تجار میں مبتلا تھا۔ میں نے تین دن اس کی تہاڑی  
 کی یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے جا ملا۔ اور میں نے اس کی تہینوں تکفین کر کے  
 اس کو دفن کر دیا ” اس نے بتایا۔

” اس کی قبر کہاں ہے؟ امیر المؤمنین نے پوچھا۔  
 چشمے کے مالک نے ایک قبر کی نشان دہی کی، حضرت عمرؓ نے اس کی  
 قبر پر غار پڑھی اور اس سے لپٹ کر روئے۔ اس کے بعد اس کے اہل و عیال کو  
 ہمراہ لے گئے اور حبیب تک زندہ رہے ان کی کفالت کرتے رہے۔

## رعایا کے حقوق کی دستاویز

ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ منیر پر چڑھے اور رعایا اور خلیفہ کے  
 حقوق و ذرائع کے متعلق ایک بلیغ و مفصل خطیہ دیا۔ ارشاد ہوا  
 ” لوگو! کبھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ عصیت ہی میں اطاعت کا مطالبہ  
 کرے اور یہ جائز ہے کہ ایسے شخص کی اطاعت کی برائے جو عصیت کا حکم دے۔  
 اس کے بعد سرکاری خزانے میں تصرف کرنے کے بارے میں خلیفہ و حاکم  
 کے ذرائع کی توضیح کی اور فرمایا ” صرف تین صورتیں ہیں جن کو اختیار کرنے سے

یہ مال صالح ہو سکتا ہے۔ اول یہ کہ حق کے ساتھ وصول کیا جائے۔  
 دوسرے یہ کہ حق کے مطابق تصرف کیا جائے اور تیسرے یہ کہ ناجائز طریقے سے  
 اُسے نزیح نہ کیا جائے۔ میری اور تمہاری مثال بیتم اور اس کے ولی کی ہے،  
 اگر متمول ہوں گا تو مسلمانوں کے مال سے کچھ نہیں لوں گا۔ ضرور تمند ہوں گا  
 تو بقدر ضرورت لوں گا۔

پھر انتظام حکومت کا اصول ان الفاظ میں بیان کیا :  
 " میں کسی کو موقعہ نہیں دوں گا کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو  
 میں ظالم کے چہرے کو اپنے پاؤں سے مسل دوں گا یہاں تک کہ وہ راہ راست  
 پر آجائے۔"

مسلمانوں کے حقوق اپنی حکومت پر کیا ہیں اس کے متعلق فرمایا :  
 " مجھ پر تمہارے چند حقوق ہیں۔ میں ان کو اس لیے بیان کرتا ہوں کہ مجھ سے  
 ان کا مطالبہ کر سکو۔"

۱۔ میرا فرض ہے کہ میں خراج اور خمس (ٹیکس) کا مال جائز طریقوں سے  
 وصول کروں۔

۲۔ میرا فرض ہے کہ جو مال (خزانہ) میرے ہاتھ میں آجائے اس کو صحیح  
 مصارف میں صرف کروں۔

۳۔ میرا فرض ہے کہ تمہارے وظائف کو بڑھائوں۔ سرحدوں کی حفاظت

کروں!

۴۔ اور میرا فرض ہے کہ تمہیں خطرے میں نہ ڈالوں۔

اس کے بعد اپنے حکام کو مخاطب کیا اور فرمایا :

”اچھی طرح سن لو کہ میں تم کو ظالم و جبار بنا کر نہیں بھیجا۔ میں تم کو ہندوستان کے رہنما بنا کر بھیجا ہے کہ لوگ تمہارے ذریعے سے سیدھی راہ پائیں۔ پس فیاضی کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق دو۔ نہ ان کو مارو کہ وہ ذلیل ہو جائیں۔ نہ ان کی مدح و ستائش کرو کہ انہیں تمہارے ساتھ گرویدگی نہ پیدا ہو۔ نہ ان کے سامنے اپنے دروازے بند رکھو کہ قوی ضعیف کو ننگل جائے۔ اپنے کو ان پر ترجیح دے کر ان پر ظلم نہ کرو۔ ان کے ساتھ جہالت اور سختی سے پیش نہ آؤ۔ ان کے ذریعے کفار سے جہاد کرو مگر مسلمانوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ اگر وہ تھک جائیں تو رک جاؤ۔

پھر مسلمانوں سے عام خطاب کیا اور فرمایا۔

”مسلمانو! تم گواہ رہو کہ میں نے ان حکام کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، ان پر مال غنیمت تقسیم کریں، ان میں عدل قائم کریں اور ان کے مقدمات کے فیصلے کریں اور اگر کوئی مشکل مسئلہ پیش آجائے تو میرے سامنے پیش کریں۔“

## خدمتِ خلق

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے محلے کی ایک بکریں خاتون کی بکریوں کا دودھ دوا کرتے تھے۔ جب بارِ خلافت سے ان کے کندھے گرا نبار ہو گئے تو اس خاتون کی لڑکی کو جو فکر دستگیر ہوئی وہ یہ تھی کہ اب اس کی بکریاں کون دوہے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا تو اطلاع دی کہ تمہاری بکریاں میں دوہوں گا۔ خلافت مجھے خلقِ خدا کی خدمت گزاری سے باز نہیں رکھے گی۔

(۲)

مدینہ کے اطراف میں ایک نابینا اور ضعیف عورت رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ علی الصبح جا کر اس کی ضروری خدمات سرانجام دیتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص ان سے بھی پہلے آکر اس ضعیفہ کے کام کر جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان تھے کہ وہ کون شخص ہو سکتا ہے۔ ایک روز وہ تحقیق حال کے لیے ذرا سویرے آئے اور دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو اس وقت خلیفہ تھے، اس ضعیفہ کی خدمت گزاری سے فارغ ہو کر چھوڑنے سے نکل رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: میری جان قربان! اے خلیفہ رسول! آپ ہی ہر روز سبقت کر جاتے ہیں۔

## احتساب حکام

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاعدہ تھا کہ جب کسی شخص کو حکومت کے منصب پر مقرر کرتے تو اس سے عہد لیتے کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوگا، چھٹا ہوا آٹا نہ کھائے گا۔ باریک کپڑے نہ پہنے گا۔ دروازے پر دربان نہ رکھے گا اور اہل حاجت کے لیے ہر وقت اپنا دروازہ کھلا رکھے گا۔ ان شرطوں کا مقصد یہ تھا کہ حکام کے اندر نہ کبر نفس پیدا ہو نہ عیش و تنعم کے عادی بنیں اور نہ ان کے اور عوام کے درمیان کوئی پردہ حائل ہو۔ ایک روز امیر المؤمنین کہیں جا رہے تھے۔ رستے میں آواز آئی:

"اے عمر! کیا یہ وعدے جو تم اپنے حکام سے لیتے ہو تمہیں نجات دلا سکیں گے؟"

حضرت عمر رگ گئے اور کہنے والے سے پوچھا "تمہارا کیا مطلب ہے؟" میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا عامل عیاض بن غنم باریک کپڑے پہنتا اور دروازے پر دربان رکھتا ہے" اس شخص نے جواب دیا:

حضرت عمر نے محمد بن مسلمہ کو جو احتساب کے کام پر مامور تھے حکم دیا کہ "عیاض بن غنم کو جس عال میں پاؤ پکڑ کر لے آؤ"

محمد بن مسلمہ گئے تو دیکھا کہ واقعی دروازے پر دربان موجود ہے۔ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حرم پر باریک ممتنع ہے۔ یہ دیکھ کر کہا "ابھی امیر المومنین کی خدمت میں چلو۔"

"اچھا ٹھہرو کہ بدن پر قیادال لوں" عامل خلافت نے عرض کیا۔  
 "نہیں مہنیں اسی حالت میں چلنا پڑے گا؟" امیر المومنین کے محتسب نے کہا۔  
 چنانچہ اسی حال میں امیر المومنین کے سامنے حاضر ہوئے۔  
 حضرت عمرؓ نے اُن کا ایک کرنا، ایک عصا اور بکریوں کا ریوڑ منگایا،  
 اور فرمایا، "یہ قمیض اتار دو اور پہ کرنا پہن لو۔ یہ عصا لو اور یہ بکریاں چراؤ۔"  
 "امیر المومنین اس سے تو موت بہتر ہے۔" عیاض گھبرا کر بولے۔  
 گھبرانے کی بات نہیں تمہارے باپ کا نام غم اکی لیے رکھا گیا تھا کہ  
 وہ بکریاں چرایا کرنا تھا، امیر المومنین نے سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔  
 اور عامل حکومت کے اندر جو کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں ان کو اس طرح دور کر دیا  
 خلافت راشدہ میں بندگان خدا کو حقیقی امن و اطمینان نصیب ہی اس لیے  
 تھا کہ عمال حکومت فرض شناس تھے اور امیر المومنین سختی سے ان کا احتساب کرتے  
 اور ان کو بندوں کا خدائے سے باز رکھتے تھے۔

خلافت راشدہ کے دور سعادت میں جو حیثیت امیر المومنین کو حاصل تھی وہی  
 حیثیت اب اسلامی حکومت کو حاصل ہے اور احتساب کے جو فرائض اس



امیر المؤمنین سرانجام دیتے تھے وہی فرائض اب اسلامی حکومتوں کو سرانجام دینے چاہئیں کہ اسی طرح حکام میں مطلوب اوصاف پیدا ہوں گے۔  
 سلطنت کا نظام حاکموں اور عاملوں کے اخلاق فاضلہ پر چلتا ہے۔  
 بد اخلاق افسریت جلد حکومت کو عوام کی نگاہوں سے گرا دیتے ہیں۔ اگر وہ عیش پرست ہوں تو اپنی غیاشیوں کے لیے ظلم و فساد برپا کرتے، لوگوں کا مال لوٹتے ان کی آبرو کو خراب کرتے اور رشوت ستانی سے بندگان خدا کو ستاتے ہیں۔ خلافت راشدہ کے نظام حق کی بنیاد اس امر پر قائم تھی کہ عمال اخلاق فاضلہ کے پیکر ہوں اور ان کے افکار اور خیالات تک پاکیزہ ہوں۔ اگر کسی شخص کے متعلق اس سلسلے میں ذرا سی ذمہ شکایت بھی پیدا ہوتی تو حضرت عمرؓ عامل کو معزول کر دیتے۔

(۲)

حضرت نعمان بن عدی رضی اللہ عنہ میسان کے عامل بنا کر بھیجے گئے۔  
 بی بی سے کہا کہ تمراہ چلو، مگر اس نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میسان پہنچ کر اپنی جان محبت بی بی کو ایک خط لکھا اور بے تابی فراق کے اظہار کے لیے چند اشعار اس میں لکھے:

فمن مبلغ حسنا عن حلیہا بمیسان یسبغ فی زجاج رختہ  
 اس پیکر حسن کو میری طرف سے کون یہ پیغام پہنچائے گا کہ اس کا شوہر

میسان میں ساعر و مینا سے شغل کر رہا ہے۔

اذا شئت غلثی و صاقتین قریۃ و صا حۃ تحد و علی کل مبہم

حب میں چاہتا ہوں تو بستی کے دہقان میرے لیے گیت گاتے اور تہار

سے دل بہلاتے ہیں۔

اذا كنت ند مانی فبالا کبر اسقنی ولا لیقنی بالاصغر المثلد

حب تو میری ہم نشین بنے تو چھوٹے پیالوں سے نہ پلا بلکہ بڑے پیالے

سے پنا۔

لعل امیر المؤمنین لیسوعاً قناد منا فی الجوسق المثلد

اگر امیر المؤمنین کو میرے ان مشاغل کی اطلاع ملے تو شاید وہ اس کو ناپسند کریں  
امیر المؤمنین اپنے مجال کا سختی سے جائزہ لیتے رہتے تھے ان کو ان اشعار  
کی خبر ہوگئی اور دربار خلافت سے حضرت نعمان کے نام فرمان کیا کہ میں نے  
تمہارا آخری شعر سنائی الحقیقت مجھے اس قسم کے مشاغل سخت ناگوار ہیں۔ اس  
خط کو تم اپنی معزولی کا پروانہ سمجھو۔

نعمان معزول ہو کر آئے تو عرض پر دراز ہوئے کہ:

”امیر المؤمنین وہ تو محض ایک سخن گسترانہ بات تھی۔ یونہی چند اشعار

زبان قلم پر جاری ہو گئے تھے، ورنہ میں کہاں اور شراب و رباب کہاں۔“

امیر المؤمنین نے فرمایا ”تم صحیح کہتے ہو تمہارے متعلق میرا بھی ایسا خیال ہے“

مگر تم عامل خلافت بنائے جانے کے اہل نہیں ہو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں اپنے معمول کے مطابق ہاتھ میں درہ لیے بازار میں گھوم رہے تھے اور لوگوں کو پرہیزگاری، سچائی، جسٹس اور ناپ تول پورا کرنے کی ترغیب دیتے پھر رہے تھے۔

ایک خرما فروش کی دکان کے سامنے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک لوتڈی رو رہی ہے۔ اسلامی حکومت کا جلیل القدر امیر رک گیا اور پوچھا: "تم کیوں رو رہی ہو؟"

"اس دکان دار سے میں نے ایک درہم کی کھجوریں خریدی تھیں جب میں لے کر گھر پہنچی تو میرے آقائے کہا کہ یہ کھجوریں واپس کر آؤ۔ یہ ناقص ہیں مگر دکان دار واپس نہیں لیا اب میرا آقا مجھ پر خفا ہوگا۔ اس لیے میں رو رہی ہوں۔" لوتڈی نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا۔

"میاں دکان دار حیب کھجور اس کے مالک کو پسند نہیں تو کھجور لے لو اور درہم واپس دے دو۔" حضرت علیؑ نے سفارش کرتے ہوئے فرمایا۔

جائیے جائیے جناب آپ کو اس معاملے میں یوں لے لے کا کوئی حق نہیں۔

دکان دار نے جواب دیا۔ جو نہیں جانتا تھا کہ وہ کس سے مخاطب ہے۔

اس پر ایک شخص نے دکان دار سے کہا: "جانتے ہو تم کس سے مخاطب ہو؟"

اتھن یہ امیر المؤمنین ہیں۔ یہ سن کر دکان دار گھبرا گیا اور اس نے کھجور واپس لے لی۔

اور دام دے دیئے اور عرض کیا۔

”امیر المؤمنین! مجھ سے شطا ہو گئی، معاف کر دیجئے“

”اگر تم لوگوں کو ان کا حق پورا پورا دیتے رہو تو مجھ سے زیادہ تم سے کون

راضی ہو سکتا ہے“ حضرت علیؑ نے اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا۔ اور اس کو

- بتا دیا کہ اسلامی حکومت کی رضا مندی و نارضا مندی کا معیار کیا ہے



## اعترافِ خدات

ایک روز حضرت عمرؓ بازار سے گذر رہے تھے۔ ایک نوجوان عورت

نے ان کا دامن پکڑ کر پھیرا لیا اور کہا:

”امیر المؤمنین! میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس نے چھوٹے چھوٹے

بچے چھوڑے ہیں جو کسی کام کا ج کے قابل نہیں اور کوئی کھیتی یا مویشی نہیں

چھوڑے کہ ان کی آمدنی سے سیراوقات ہو سکے۔ میں بچوں کو چھوڑ کر کوئی

محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتی۔ میں ڈرتی ہوں کہ ان کو درندے نہ کھا جائیں۔

امیر المؤمنین خفاف بن ایاء انصاری کی لڑکی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ حدیبیہ میں موجود تھی“

حضرت عمر نے اس عورت کو وہیں پھٹہرنے کو کہا۔ اور خود تشریف لے گئے  
تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو اس حال میں کہ روم و فارس کے فاتح کے  
ہاتھ میں اونٹ کی نکیل تھی، اونٹ پر غلہ اور کپڑا لدا ہوا تھا۔  
"اونٹ کی ہمارا تمام اور اسے ہانک کر لے جاؤ۔" امیر المؤمنین نے  
اس عورت سے فرمایا:

"امیر المؤمنین آپ نے اس کو بہت زیادہ دے دیا۔ ایک شخص نے  
حضرت عمر سے کہا۔

"ارے کم نجات اس کے باپ اور بھائی دونوں نے میرے سامنے  
مدنوں ایک قلعہ کا محاصرہ کیا اور اس کو فتح کر کے دم لیا۔ جو کچھ میں نے اس  
عورت کو دیا ہے وہ تو اس حسن خدمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔" امیر المؤمنین  
نے جواب دیا۔

اسلامی حکومت اپنے غازیوں اور شہیدوں کی خدمات کو فراموش نہیں کرتی۔

## اسلامی حکومت میں زمینوں کی حالت

(۱)

صحیح اسلامی حکومت قائم ہو تو اس میں غیر مسلم رعایا کی جان مال اور آبرو کی وہی

قیمت ہوتی ہے جو مسلمانوں کی جان مال اور آبرو کی۔

بنی امیہ کے دور حکومت میں ذمیوں کے حقوق تلف ہو چکے تھے اور  
ذمیوں کا کیا سوال خود مسلمان بھی برسر اقتدار خاندان کے غلام ہو کر رہ گئے تھے  
لیکن حبیب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عہد رشد و ہدایت آیا اور اسلام کو حجروں  
سے نکال کر پوری اموی سلطنت کے دروہست پر اختیار نصیب ہوا تو ذمیوں  
کو پورا پورا امن نصیب ہوا۔

عمر بن عبدالعزیز نے ذمی کے خون کی قیمت مسلمان کے خون کے برابر  
قرار دی۔ ایک بار چہرہ کے ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا حضرت عمر  
بن عبدالعزیز کو اطلاع ہوئی تو انھوں نے وہاں کے عامل کو لکھا کہ قاتل کو  
مقتول کے وارثوں سے لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر  
عامل نے تعمیل ارشاد کی اور ذمیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔

(۲)

جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے شاہی خاندان کے افراد سے مسلمانوں کی  
مغصوبہ زمینیں واپس لیں تو ذمیوں کی مغصوبہ زمینیں بھی واپس دلائیں۔ اس  
سلسلے میں ایک ذمی نے بارگاہ خلافت میں دعویٰ دائر کیا کہ عباس بن ولید نے  
میری زمین پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے۔

”تم اس ذمی کے دعویٰ کا کیا جواب دیتے ہو۔ عدل و حق کے علمبردار خلیفہ نے

عیاس سے پوچھا۔

”میرے باپ ولید نے مجھے یہ زمین جاگیر میں عطا فرمائی تھی۔ عیاس نے جواب دیا۔  
ذمی اسلامی عدل کا ادائشناں تھا۔ اس نے کہا ”امیر المؤمنین میں آپ سے کتاب اللہ  
کے موافق فیصلہ چاہتا ہوں۔ اس پر خلیفہ راشد نے عیاس سے فرمایا۔  
”عیاس! خدا کی کتاب کے رو سے کسی ذمی کی زمین غصب کر کے جاگیر میں  
نہیں دی جاسکتی۔“

”یہ درست ہے مگر میرے پاس بیرونی سند ہے۔ آپ کو اپنے سے پہلے  
کے ایک خلیفہ کے فرمان کو یاد ہے؟ کیا کچھ حق ہے؟“ عیاس نے جواب دیا۔ ”یہ ہونے  
عرض کیا۔“

”خدا کی کتاب ولید کی سند پر مستقیم ہے۔ بنا ذمی اور سہارا ہے۔“  
کتاب اللہ کے متبع خلیفہ کا جچا تیار رہا۔

(۳)

دمشق میں ایک گرجا عرصے سے ایک مسلمان داندان کے قبضے میں چلا آتا تھا  
جب عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوئے اور عیسائیوں کو معلوم ہوا کہ اب اس سلطنت  
میں بنی امیہ کی حکومت نہیں ہے بلکہ اسلام برسر اقتدار آگیا ہے تو انھوں نے  
امیر المؤمنین کی خدمت میں گرجے کی واپسی کا دعویٰ دائر کر دیا۔

حضرت عمر بن عبد العزیز نے مسلمانوں کو بلایا اور حقیقت دریافت کی انھوں نے

جو اب دیا "یہ گرجا ایک عرصے سے ہمارے قبضے میں ہے۔"

اسلام کے ترجمان خلیفہ عادل نے فرمایا:-

"لیکن اسلام تم کو اجازت نہیں دیتا کہ تم غیر مسلموں کی عبادت گاہوں پر قبضہ

کرو۔ گرجا عیسائیوں کو واپس کرو۔ اور ایک لمحے میں برسوں کی بے انصافی کا

تدارک ہو گیا۔

## الامتی رے

سب کو معلوم ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حضرت عمرؓ نے

معزول کر دیا تھا۔ اس پر احمد بن حفص مخزومی نے جو حضرت خالد کے چچا زاد

بھائی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بر ملا ٹوکا اور اعتراض کرتے ہوئے کہا:-

"اے عمر تم نے انصاف نہیں کیا۔ تم نے ایک ایسے عامل کو معزول کیا جس کو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا۔ تم نے ایک ایسی تلوار کو میان میں

کر دیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا تھا۔ تم نے ایک ایسے جھنڈے

کو لپٹ کر دیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کیا تھا۔ تم نے قطع رحم

کیا اور چچا زاد بھائی پر حسد کیا۔"



اعتراضات بے حد سخت تھے۔ ایچہ نہایت تلخ تھا اور الزام بے حد سنگین اور مخاطب نہایت جلیل القدر۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قطعاً ناگواری کا اظہار نہ کیا اور جواب دیا تو صرف اس قدر کہ :

صاحبزادے کم سنی اور قرابت مندی کے باعث تمہیں اپنے چچا زاد بھائی کی حمایت میں غصہ آگیا؟

یہی آزادی رائے اور اس کو تحمل سے برداشت کرنے کے اوصاف تھے۔  
جو ملت کے عروج و اقبال کی دلیل تھے۔



## سیفھی ایکٹوں کا عدم جواز

بنی امیہ کی حکومت جن حالات میں قائم ہوئی تھی اور بنی امیہ کے خلفاء جس انداز سے حکومت اور جس قسم کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ لوگ ان کے مخالف ہوں اور وہ لوگوں سے خائف رہیں۔ اس عدم محبوبیت اور خوف زدگی کے باعث بنی امیہ اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے بات با شہرہ شدید سزائیں دیتے تھے اور محض بدگمانی اور سوئے ظن پر دار و سیر اور سزا کا سلسلہ قائم تھا۔ یہ صورت حال نہ صرف سیاسی امور میں لگتی بلکہ عام انتظامی امور میں بھی۔

موصول میں چوری اور نقب زنی کی وارداتیں بکثرت ہوتی تھیں۔ اس خرابی کا تدارک کرنے کے لیے نظم و نسق کو درست کرنے کی بجائے وہاں کے والی یحییٰ غسانی نے امیر المومنین کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ لوگوں کو شہرے میں گرفتار کر لینے اور سزا دینے کی اجازت دی جائے۔ لیکن اب نخت خلافت پر ایک جابر اموی خلیفہ نہیں بلکہ متبع اسلام حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد تھے انہوں نے جواب میں حکم دیا کہ :

” صرف شرعی ثبوت پر مواخذہ کرو۔ اگر عدل و انصاف لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتا تو خدا ان کی اصلاح نہ کرے۔“

## قومی عصبیت کا تراز

اسلامی زندگی میں قوم۔ نسل اور قبیلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور نہ فخر و غرور اور تکبر کے لیے اس میں گنجائش ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک فوجی مہم درپیش تھی۔ اس غرض کے لیے مقام حرت میں فوجیں جمع ہوئیں امیر المومنین فوجوں کا معائنہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔

ایک جگہ بنی فزارہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ حضرت صدیق کو دیکھ کر وہ تعظیم

کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے ان کو دعادی اور مرحبا کہا۔ ان کے سرداروں نے کہا "اے خلیفہ رسولؐ ہم گھوڑوں پر خوب پڑھتے ہیں۔ اس لیے گھوڑے بھی ساتھ لائے ہیں۔ بڑا جھنڈا ہمارے ساتھ کر دیجیے۔"

"خدا تمہاری بہت اور تمہارے ارادوں میں برکت دے۔ مگر بڑا جھنڈا تمہیں نہیں مل سکتا کیوں کہ وہ بنو عیسٰی کو دیا جا چکا ہے۔" خلیفہ رسولؐ نے فرمایا۔  
یہ سن کر ایک فزاری کو جوش آگیا اور اس نے کہا:

"ہم بنی فزارہ بنو عیسٰی سے اچھے ہیں۔ جھنڈا ہمیں ملنا چاہیے۔"  
"خاموش رہو۔ تم سے بہر عسبی اچھا ہے۔" حضرت ابو بکرؓ نے سرزنش کرتے ہوئے فرمایا۔ بنو عیسٰی نے سنا تو وہ بھی قومی عصبیت میں کچھ کہنا چاہتے تھے حضرت ابو بکرؓ نے ان کو بھی ملامت کر کے خاموش کر دیا اور قومی عصبیت اور نسلی غرور میں مبتلا ہونے سے روک دیا۔



## قتل مسلم سے اجتناب

(۱)

حضرت مسالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو حجاج نے ایک ایسے شخص کے قتل کرنے کا حکم دیا جو فاطمہ بنت عثمانؓ کے معادلوں میں تھا۔ حضرت مسالمؓ تلوار لے کر

اس شخص کی طرف بڑھے اور پاس جا کر پوچھا تم مسلمان ہو یا اس نے کہا :  
 ہاں میں مسلمان ہوں مگر آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے۔  
 سالم : تم نے آج صبح کی نماز پڑھی ہے ؟

حجرم : ہاں پڑھی ہے !

سالم نے نوار بھینک دی اور حجاج سے کہا : یہ شخص مسلمان ہے۔ اس نے  
 آج صبح تک نماز پڑھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص  
 نے صبح کی نماز پڑھی وہ خدا کی امان میں آگیا۔

حجاج : تم اس کو صبح کی نماز کے لیے قتل نہیں کرتے۔ بلکہ اس لیے کہ یہ قاتلین عثمان  
 کے معاونوں میں تھا۔

سالم : اہل کے لیے اور لوگ لڑتے ہیں جو عثمان کے خون کا انتقام لینے کے لیے  
 اس کے زیادہ تقدر ہیں۔

حضرت شہداء عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سنا تو کہا سالم نے کچھ داری کا  
 کام کیا۔

اس واقعے کے سلسلے میں یہ شبہ نہ ہو کہ شخص مذکور قتل کا مجرم تھا۔ اگر وہ قاتل  
 ہوتا تو اس کا خون اسلام میں حکومت پر حلال تھا مگر صورت واقعہ یہ تھی کہ اس پر  
 قاتلین عثمان میں شریک ہونے کا شبہ تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین صفین  
کا معرکہ جنگ نہایت عظیم الشان معرکہ جنگ تھا۔ اکثر صحابہ و تابعین نے اس  
حصہ لیا۔ لیکن کچھ ایسے حضرات بھی تھے جو اس خانہ جنگی میں اپنے ہاتھ آلودہ  
کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ان میں ایک ابو العالیہ ریاضی بھی تھے جو ایک  
ممتاز تابعی ہیں۔

اس زمانے میں یہ جوان تھے اور جنگ کو نہایت محبوب رکھتے تھے چنانچہ  
جنگ کی پوری تیاری کر کے میدان جنگ میں پہنچے۔ دونوں طرف ایسی عظیم الشان  
فوجیں تھیں کہ ان کے سرے نظر نہیں آتے تھے۔ تا حد نظر فوجیں ہی فوجیں  
پھیلی ہوئی تھیں۔

ابو العالیہ ریاضی میدان جنگ میں پہنچے تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا جب  
ایک فریق اللہ اکبر کا نعرہ مارتا اور کلمہ توحید کا ورد کرتا تو دوسرا بھی تکبیر تہلیل  
سے اس کا جواب دیتا۔ ابو العالیہ سوچنے لگے کہ یا اللہ میں کس فریق کو مومن اور  
کس کو کافر سمجھوں۔ کس کا ساتھ دوں اور کس کے خلاف جنگ کروں۔ میں جنگ  
کے لیے مجبور تو نہیں ہوں۔ یہ سوچا اور شام سے پہلے پہلے لوٹا گئے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین جس

زمانے میں جنگ پوری تھی مسروق بن اجدع جو یمن کے مشہور شہسواروں میں تھے  
 فریقین میں سے کسی کے ساتھ نہیں تھے۔ قادیسیہ کی مشہور جنگ میں وہ اور ان کے  
 تین بھائی شریک تھے۔ تینوں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔  
 مسروق کا ہاتھ تلوار چلاتے چلاتے نسل ہو گیا تھا اور سر میں گہرا زخم آیا تھا جس کا  
 نشان باقی رہ گیا۔ اور اسے وہ اپنی شجاعت اور جہاد فی سبیل اللہ کی یادگار  
 کے طور پر نہایت محبوب رکھتے تھے۔ لیکن میدان جہاد کے دھنی ہونے کے  
 باوجود حیب خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ اس سے بچنے کے لیے کوفہ  
 چھوڑ کر قزوین چلے گئے۔

وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حق پر سمجھتے تھے۔ اس لیے ان کی علیحدگی  
 پر تعجب کرتے ہوئے ایک شخص نے پوچھا:

”آپ نے حضرت علیؑ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟“

مسروق نے کہا ”میں تم سے خدا کا واسطہ دے کر ایک سوال کرتا ہوں۔  
 پوچھنے والے نے کہا فرمائیے۔ مسروق نے فرمایا ”خزن کرو حیب ہم لوگ  
 ایک دوسرے کے مقابل صفا آراہوں اور فریقین تلواریں سونت کر ایک  
 دوسرے کو قتل کر رہے ہوں تو کیا ایک آسمان میں ایک دروازہ کھلے اور اس میں  
 سے ایک فرشتہ اتر کر دونوں صفوں کے درمیان آکر اعلان کرے:

یا ایھا الذین امنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون

تجارت عن تراعن منكم ولا تقتلوا النفسكم فان الله كان  
بكم رحيمًا

دوسرے ایمان والوں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ بلکہ  
وہ مال کھاؤ جو آپس کی رضا مندی سے تجارت کے ذریعے حاصل کیا گیا ہو  
اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔

تو یہاں قریشین یہ اعلان سن کر کیا کریں گے؟  
"قریشین جنگ سے ہاتھ روک لیں گے" پوچھنے والے نے اقرار کیا۔  
"تو خدا کی قسم تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا آسمان کا دروازہ کھول چکا اور  
اس میں سے ایک فرشتہ اتر کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ  
حکم سنا چکا۔ یہ حکم قرآن میں موجود ہے اور اس کو کسی دوسرے حکم نے منسوخ  
نہیں کیا۔"

پوچھنے والے کا دل مطمئن ہو چکا تھا اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ مسروق کیوں  
جنگ سے علیحدہ رہے۔

○  
احقر ام مسلم

حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے معمول کے مطابق ایام خلافت میں

چھوٹی آستین اور اونچے دامن کا کرتا پہنے اور معمولی کپڑے کا تہ بند باندھے  
بازار میں جا رہے تھے۔ امیر المؤمنین کو دیکھ کر ایک شخص رک گیا اور پھر  
تعظیم کے طور پر ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔

حضرت علیؑ نے اس سے کہا: "میرے برابر برابر چلو۔"

"امیر المؤمنین میں احترام و تعظیم کے طور پر آپ کے پیچھے چل رہا ہوں؟"

اس شخص نے عذر کرتے ہوئے عرض کیا۔

"احترام و تعظیم کا یہ طریقہ درست نہیں۔ اس میں والی کے لیے فتنہ اور

مومن کے لیے ذلت ہے۔" امیر المؤمنین نے فرمایا اور اس شخص کو اپنے برابر

چلنے پر مجبور کر دیا۔

## صلح و صفائی

حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ میں کسی مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اتفاق

سے حضرت ابو بکرؓ کی زبان سے کوئی درشت کلمہ نکل گیا۔ بعد میں احساس

ہوا اور مذمت دامن گیر ہوئی اور حضرت عمرؓ سے معافی مانگی لیکن ان کو اس

درشت بات سے رنج پہنچا تھا۔ انھوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔



حضرت ابوبکرؓ سخت پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ عمر کو میری ایک بات سے رنج پہنچا ہے ان سے معافی دلا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے کے لیے فرمایا خدا تمہاری مغفرت فرمائے۔ صحابہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی دعائیں نہایت محبوب اور موجب طہائیت تھیں۔

بعد میں حضرت عمرؓ بھی اپنے انکار پر پشیمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے دیکھا کہ چہرہ اقدس پر برہمی کے آثار ہو چکے ہیں۔ حضرت ابوبکرؓ نے عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ حضور غلطی میری تھی اور دونوں دوستوں کے دل کا غبار جانا رہا۔

## ○ مسلمانوں میں صلح کرانا

”فاصلحو ابین اخویکم“ ارشاد الہی ہے مسلمان میں صلح کرانا ایک اسلامی فریضہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو اس وقت جو اختلاف امت میں پیدا ہو گیا تھا اس نے جنگ جمل کی صورت اختیار کر لی۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ

تھے اور دوسری طرف حضرت عائشہؓ حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ صرف آرا  
تھے۔ حضرت کعب بن سور حین کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں قاضی  
مقرر فرما رکھا تھا۔ اس خانہ جنگی کو دیکھ کر خانہ نشین ہو گئے اور کھانے پینے کا  
سامان لینے کے لیے ایک سو راج بنا لیا۔

لوگوں نے حضرت عائشہؓ سے کہا کہ اگر کعب آپ کے ساتھ ہو جائیں  
تو پورا قبیلہ ازد آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضہ کعب کے  
مکان پر تشریف لے گئیں اور ان سے گفتگو کرنی چاہی مگر انھوں نے کوئی  
جواب نہ دیا اس پر حضرت عائشہؓ نے کہا۔

” کعب کیا میں تمہاری ماں نہیں ہوں اور تم پر میرا حق نہیں ہے؟“  
حضرت کعب نے عرض کیا ” میں حاضر ہوں فرمائیے کیا ارشاد ہے؟“  
” میں چاہتی ہوں کہ تم لوگوں کو سمجھا بچھا کر اصلاح و مصالحت کی کوشش  
کرو۔ اہم المؤمنین نے فرمایا۔

حضرت کعب نے کہا ” لسیر و چشم“ اور قرآن لے کر لوگوں کو سمجھانے  
کے لیے نکلے۔ جب دونوں فوجیں بالمقابل ہوئیں تو کعب صفوں کے درمیان  
گھس گئے اور قرآن کھول کر لوگوں کو سمجھانے اور کتاب الہی کی طرف بلانے  
لگے لیکن حالات بے حد خراب ہو چکے تھے۔ جنگ شروع ہو گئی اور کعب  
صلح کی کوشش میں شدید ہو گئے۔

# بے لاگ عدل

(۱)

قاضی شریح بن عارث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے قاضی تھے۔  
بے لاگ عدل ان کا شعار تھا۔ اس معاملے میں وہ نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی  
پروا کرتے تھے اور نہ اپنے کسی قریب و عزیز کی۔ قاضی مقرر ہونے سے پہلے  
بھی وہ بے لاگ فیصلہ دینے میں مصروف تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے ایک گھوڑا خریدا مگر بشرط یہ کی  
کہ اگر گھوڑا امتحان میں پورا اترا تو خریدوں گا۔

سوئے اتفاق کہ امتحان میں گھوڑا داغی ہو گیا اور حضرت عمر نے واپس کرنا  
چاہا۔ اس پر نزاع ہوئی۔ حضرت شریح بن عارث کو ثالث بنایا گیا انہوں نے  
فیصلہ دیا کہ :

”امیر المؤمنین جو گھوڑا آپ نے خریدا ہے اسے لے لیجئے یا جس حالت میں لیا تھا  
اسی حالت میں واپس کیجئے۔“

حضرت عمر نے یہ فیصلہ سنا تو ان کے بے لاگ عدل اور صحیح توت فیصلہ  
کو دیکھ کر ان کو کونے کا قاضی مقرر کر دیا۔

(۲)

قاضی شریح کے لڑکے نے ایک ملزم کی ضمانت کی۔ ملزم بھاگ گیا  
انہوں نے اپنے لڑکے کو اس کے بدلے میں قید کر دیا۔ ایک مرتبہ ان کے  
اردلی نے ایک شخص کو کورڈوں سے پٹیا۔ قاضی شریح نے اس شخص سے  
اپنے اردلی کو کورڈے لگوائے۔

(۳)

قاضی شریح بن حارث کے خاندان کے ایک آدمی نے کسی شخص پر  
کچھ زیادتی کی تھی۔ ان کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ انہوں نے اپنے خاندان  
کے آدمی کو مجرم پا کر بطور سزا ایک ستون سے بندھوا دیا۔ جب فیصلہ کر کے  
اٹھے تو ان کے رشتہ دار نے کچھ کہنا چاہا۔ قاضی صاحب نے فرمایا:  
”مجھ سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں میں نے تمہیں قید نہیں کیا ہے  
بلکہ تمہیں حق سے قید کیا ہے۔“

(۴)

قاضی شریح بن حارث کے ایک لڑکے اور چند اشخاص کے درمیان ایک  
معاملے میں کچھ جھگڑا تھا۔ لڑکے نے اپنے والد کو واقعات بتا کر پوچھا۔  
”ابا جان یہ واقعات مقدمہ ہیں اگر میرا حق نکلتا ہوا اور مقدمے میں کامیابی  
کی امید ہو تو میں دعویٰ کر دوں ورنہ خاموش رہوں۔“

”تم دعویٰ کر دو۔“ باپ نے مقدمے کی نوعیت پر غور کرنے کے بعد جواب دیا۔  
 لڑکے نے دعویٰ دائر کر دیا اور مقدمہ قاضی صاحب کی عدالت میں پیش ہوا۔  
 اپنے لڑکے اور فریق ثانی کے بیانات سننے کے بعد آپ نے فیصلہ دیا اور  
 وہ اپنے لڑکے کے خلاف کھتا۔

عدالت کو برخواستہ کر کے حیب گھر واپس آئے تو بیٹے نے کہا :  
 ”ابا جان آپ نے مجھ پر بڑا ظلم کیا۔ میں نے دعویٰ کرنے سے پہلے آپ کے  
 مشورہ اسی غرض سے کیا تھا کہ اگر کامیابی کی امید ہو تو عدالت کا دروازہ  
 کھٹکھاؤں ورنہ خاموش رہوں۔“ آپ نے دعویٰ دائر کرنے کا مشورہ دیا  
 اور پھر فیصلہ میرے مفاد میں کر دیا۔ اور اس طرح مجھے خراج گزار بن گیا۔  
 فریقہ شناس اور عدلیہ پروردگار یا اپنے لئے جواب دیا۔

جان پر بھم بھم روئے زمین کے ان جیسے تمام ادبوں کے زیادہ  
 عزیز ہو لیکن افسوس کے لئے تم سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تم نے مجھ سے  
 مشورہ کیا تھا اور صورتہ مقدمہ پیش کی تھی تو میں اکی وقت، خبر کیا تھا کہ تیرے  
 مخالف حق پر ہیں۔ اب اگر میں تم کو بنا دیتا کہ حق ان کا لکنا سیکے تو تم ان سے  
 صلح کر لیتے اور ان کا حق ضائع ہو جاتا۔ میں نے حق کو حقدار تک پہنچانے  
 کے لیے تم کو مشورہ دیا اور تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تم ایک ناحق مال پر  
 قابض رہنے سے نجات پا گے۔

(۵)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ کہیں گر پڑی۔ ایک ذمی یہودی نے اٹھالی۔ حضرت علیؑ کو معلوم ہو گیا اور قاضی شریح کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی شریح: "علی کہتے ہیں کہ یہ زرہ جو تمہارے پاس ہے ان کی ہے۔" یہودی: "ان کا دعویٰ غلط ہے۔"

"مگر تمہارے پاس اس امر کا کیا ثبوت ہے کہ زرہ تمہاری ہے؟" قاضی صاحب نے پوچھا۔

"ثبوت یہ ہے کہ زرہ میرے قبضے میں ہے" یہودی نے ہر قسم جواب دیا۔ قاضی صاحب حضرت علیؑ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: "امیر المؤمنین فرمائیے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ زرہ آپ کی ہے؟ اور یہ گر گئی تھی کوئی شہادت اس بارے میں ہے؟"

امیر المؤمنین: "میرا لڑکا حسن اور میرا غلام قنبر اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے اور کہیں گر گئی تھی۔"

قاضی: "حسن آپ کے صاحبزادے ہیں اور قنبر آپ کا غلام۔ میں باپ کے حق میں لڑکے کی شہادت اور آقا کے حق میں غلام کی شہادت قبول نہیں کر سکتا۔ کوئی اور گواہ لائیے۔"

امیر المؤمنین: "آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا

کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا ان کی شہادت بھی قابلِ اعتناء نہیں؟

قاضی: "سنا ہے مگر یہ معاملہ شہادت کے اصول کا ہے۔ اگر شخصیت کی بنا پر فیصلہ کرنا ہوتا تو خود آپ کا دعویٰ ہی کافی تھا۔"

امیر المؤمنین: بہتر ہے میں زرہ کے دعوے سے دستبردار ہونا ہوں۔  
یہ ماجرا دیکھ کر یہودی پکاراٹھا:

"قاضی صاحب! میں ایک سچی بات کا اقرار کرتا ہوں۔ آپ نے امیر المؤمنین کے خلاف فیصلہ کیا اور انہوں نے بلاچون وچراا سے تسلیم کر لیا۔ فی الواقع آپ لوگوں کا دین اسلام برحق ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ)

یہودی کے قبولِ اسلام پر حضرت علیؓ کو اتنی مسرت ہوئی کہ انہوں نے یہودی کو زرہ غطا فرمادی اور فرمایا "میں یہ زرہ اپنی طرف سے تمہارے قبولِ اسلام کی یادگار میں نہیں دیتا ہوں۔"

اللہ اکبر! وہ بھی کیا خوب لوگ تھے۔

## عدل پروری

جراح بن عبدالستد بن حکمی خراسان کا گورنر تھا۔ خراسان کے لوگوں کی روش نہایت خراب تھی۔ گورنر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں اس صورت حال کا تذکرہ لکھ بھیجا اور کہا کہ :

”ان لوگوں کو کورے اور تلوار کے علاوہ اور کوئی شے درست نہیں کر سکتی۔ اگر امیر المؤمنین مناسب تصور فرمائیں تو اجازت مرحمت کریں۔ امیر المؤمنین نے جواب میں لکھا :

”تمہارا یہ لکھنا بالکل غلط ہے کہ اہل خراسان کو کورے اور تلوار کے سوا کوئی شے درست نہیں کر سکتی۔ انسانوں کو عدل و انصاف ہی درست کر سکتا ہے اسی کو عام کرو۔“

یہ تھا وہ فلسفہ ان جو اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ مگر مسلمانوں کے لیے جو مسلمانوں سے ایک دوسرا فلسفہ سیکھا اور اسے اختیار کر لیا اور پھر خود مسلمانوں کے خون سے زمین کو لالہ زار بنا دیا۔





## عدل و مساوات

(۱)

جمعہ کا دن تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے منبر پر سے اعلان فرمایا کہ آج میں صدقے کے اونٹ تقسیم کروں گا۔ سب لوگ آئیں مگر اجازت لیے بغیر ہمارے پاس کوئی نہ آئے۔

یہ سن کر ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا ”یہ اونٹ کی مہار لو اور خلیفہ رسولؐ کی خدمت میں جاؤ، ممکن ہے ہمیں بھی ایک اونٹ مل جائے۔“

وہ شخص مہار لیے ہوئے آیا۔ مگر بلا اجازت بارگاہ خلافت میں چلا گیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے بطور تادیب اسی مہار سے اس کو مارا۔ جب اونٹوں کی تقسیم سے فارغ ہوئے تو فرمایا ”اس شخص کو بلاؤ جیسے ہمارے مارا تھا؟“ وہ ڈرنا ڈرتا آیا۔ خلیفہؓ نے فرمایا:

”میں نے تمہیں اس مہار سے مارا تھا تم بھی اس مہار سے اپنا قصاص لے لو۔“ حضرت عمرؓ پاس موجود تھے۔ انھوں نے کہا ”خلیفہؓ رسولؐ یہ رسم قائم نہ کیجئے آپ نے بلا وجہ تو نہیں مارا تھا بلکہ حکم کی خلاف ورزی پر سزا دی تھی۔ یہ صحیح ہے مگر قیامت میں اگر اس کا محاسبہ ہوا تو خدا کو کیا جواب دوں گا۔“

عدل و مساوات کی یہی رسم تھی جس کے باعث عہد خلافت کا ہر فرد اپنی

خودی کو بیدار اور اپنی عزت کو محفوظ پاتا تھا۔ تو میں اسی وقت تک معزز رہی ہیں  
جب تک ان کا ہر فرد خود کو معزز محسوس کرتا ہے۔ جب عمال حکومت عوام  
کو مار پیٹ سے ذلیل کر دیتے ہیں تو ان کی خودی مر جاتی ہے اور وہ اقوام  
کا شکار آسانی سے بن جاتے ہیں۔

(۲)

حضرت نمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حج پورا ہوا تھا۔ ہندوگان خدا  
کا ہجوم بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اللہم لبیک لا شریک لک  
لبیک کی صداؤں سے فضا گونج رہی تھی۔ شاہ و فقیر یکساں جوش و عقیدت  
سے اللہ کے گھر کے گرد پروانہ دار گھوم رہے تھے۔

جیلہ بن اییم عسائی جو شام کے قبیلہ عسائی کا بادشاہ تھا اور اب مسلمان  
ہو کر حج کو آیا ہوا تھا۔ اسی ہجوم میں شامل تھا۔ اس کے پیچھے ایک بدوی اپنے  
والہماۃ انداز میں اللہ کو یاد کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اتفاق سے عسائی رئیس کی عبا  
کے لٹکے ہوئے دامن پر بدوی کا پاؤں پڑ گیا۔ رئیس کو غصہ آ گیا اس نے مڑ کر  
ایک ٹھانچہ بدوی کے منہ پر رسید کیا جس سے اس غریب کی ایک آنکھ بیٹھ گئی  
مقتدہ امیر المؤمنین کی عدالت میں پیش ہوا۔

امیر المؤمنین : جیلہ کیا یہ صحیح ہے کہ تم نے اس بدوی کو ٹھانچہ مارا ؟  
ہاں امیر المؤمنین ! اس نے میرے کپڑوں پر پاؤں رکھ دیا تھا اس لیے

میں نے اسے اس گستاخی کی سزا دی۔ جبکہ نے تن کر جواب دیا۔  
 "تو یہ شخص بھی اسی طرح قصاص میں تمہارے متہ پر طمانچہ مارے گا۔"  
 امیرالمومنین نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے فرمایا۔  
 جبکہ: (حیرت سے) "اللہ اکبر! کیا اس حقیر بدوی کی آنکھ اور میری آنکھ  
 برابر ہے؟"

امیرالمومنین: "یہے شک! اللہ کا بندہ ہونے میں تم دونوں برابر ہو اور  
 قانون اسلامی کی نگاہ میں یکساں ہو۔ اور اللہ کے دین کی نظر میں شاہ و گدا برابر ہیں۔"  
 "تو مجھے ایک دن کی مہلت عنایت فرمائیے۔" جبکہ نے عاجز ہو کر کہا۔  
 امیرالمومنین: "بہتر ہے کل تک یا تو اس بدوی کو اپنے حق قصاص سے  
 دستبردار ہونے پر رضامند کر لو، یا پھر کل تمہاری آنکھ اس بدوی کی آنکھ کے  
 بدلے میں لے لی جائے گی۔"

جبکہ دربار خلافت سے نکلا اور یہ کہہ کر فرار ہو گیا کہ "جس ملک میں یہ اندھیر  
 ہے کہ ایک بادشاہ اور بدوی کو قانون کی نظر میں برابر سمجھا جاتا ہے میں اس میں  
 نہیں رہوں گا۔" جبکہ بھاگ گیا اور اس نے اپنے غرور نفس کے بدلے میں  
 اپنی آخرت برباد کر لی لیکن خلافت اسلامی کا سرفتنار خدا اور بندوں کی نگاہ میں  
 طہند ہو گیا اور نوع انسانی کے سرفیاضت تک کے لیے اس کے سامنے خم ہو گئے۔

# قانون کی حکمرانی

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت راشدہ میں عدل و انصاف کا جو دور دورہ قائم کیا تھا اس کی بنیاد "قانون کی حکمرانی" پر تھی۔ جسے عہد حاضر میں "RULE OF LAW" کہتے ہیں۔ اور اس میں چھوٹے بڑے اور افسر اور غیر افسر کا کوئی امتیاز نہیں تھا۔

جج کے موقع پر حسب معمول تمام صوبوں کے گورنر موجود تھے۔ امیر المومنین نے اعلان کیا "اگر کسی شخص کو عمال حکومت سے کوئی شکایت ہو تو پیش کرے۔ اس اعلان کو سن کر ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا:

"امیر المومنین آپ کے عامل مصر عمرو بن العاص نے مجھے سو کوڑے بٹاویں مارے ہیں۔"

"نمر و کیا یہ شخص سچ کہتا ہے؟" امیر المومنین نے حضرت عمرو بن العاص

سے پوچھا۔

"جی ہاں امیر المومنین عمرو بن العاص نے جواب دیا۔

"کیا تم بھی قصاص میں سو کوڑے مارنا چاہتے ہو؟" امیر المومنین نے مستغیث

سے پوچھا؟

”بے شک اس نے عرض کیا۔

”عمر اکوڑے کھانے کے لیے بیمار ہو جاؤ۔“ پیکر عدل امیر المؤمنین نے ارشاد کیا۔

”امیر المؤمنین! یہ امر عمال پر گراں گزرے گا اور آئندہ کے لیے نظیر قائم ہو جائے گی تو نظم حکومت قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔“ عمرو بن عاص نے تذبذب و سیاست کا ایک راز بتاتے ہوئے عرض کیا۔

”نظم حکومت ظلم اور سختی پر نہیں بلکہ عدل و انصاف پر قائم ہوتا ہے۔

جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصاص لیا گیا تو ظم کون ہوتے ہوئے امیر المؤمنین نے ڈانٹ کر فرمایا۔

”اگر میں مستغنیث کو راضی کر لوں تو قصاص سے بچ جاؤں گا؟ عمرو بن عاص

نے دریافت کیا۔

”ہاں اگر یہ شخص تمہیں معاف کر دے تو تمہارے بچ سکتے ہو! امیر المؤمنین

نے فیصلہ دیتے ہوئے فرمایا۔

عمرو بن العاص نے دو اشرفی فی تازیانہ پر مستغنیث کو راضی کر لیا اور مصر

کے گورنر کی لپٹ سو کوڑوں کی مار سے بچ گئی۔ یہی وہ عدل و انصاف تھا جس

پر اسلامی سلطنت کے زمین و آسمان قائم تھے۔ یہ بات معلوم رہنی چاہیے

کہ یہ شخص مسلمان نہیں بلکہ ایک ذمی تھا۔

## حق پسندی

حکومت و امارت ایک ایسا نشہ ہے کہ اس میں آدمی کو حق بات سننے کی تاب نہیں رہتی بلکہ اسلامی زندگی کی بنیاد ہی حق گوئی اور حق پسندی پر ہے۔ اسلامی ریاست کے امراء اپنی قوم کے اندر حق گوئی کے جذبے کو نہ صرف زندہ رہنے دیتے تھے بلکہ اسے اور ابھارتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک روز منبر پر چڑھے۔ گرد و پیش صحابہ کا مجمع تھا۔ اٹنائے تقریر میں لیا ایک آواز کو بلند کر کے بولے "اگر میں دنیا کی طرف جھیک جاؤں تو تم کیا کرو گے؟" یہ سنتے ہی ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ اس نے میان سے شمشیر ابدار کھینچی اور کہا: "اس تلوار سے تمہارا سر اڑا دیں گے۔"

"تو میری شان میں یہ لفظ کہتا ہے؟" امیر المومنین نے ڈانٹ کر کہا۔  
 "ہاں ہاں امیر المومنین تمہاری شان میں۔" اس نے ترکی یہ ترکی جواب دیا۔  
 یہ جواب سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا "الحمد للہ امیری قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر میں ٹیڑھا چلیں گا تو مجھے سیدھا کر دیں گے۔"

حضرت ابو اہل بن سلمہ ایک مجاہد تابعی تھے۔ اموی عہد میں بڑی قدر منبر

کی نگاہ سے دیکھے جاتے۔ امت کا مشہور سفاک حجاج بھی ان پر مہربان  
تھا مگر وہ اس کے اعمال سے بیزار تھے۔ حیب وہ کو فہ آیا تو اس نے  
ابو اہل کو بلا بھیجا۔

حجاج : آپ کا نام کیا ہے ؟

ابو اہل : تم کو معلوم ہی ہوگا ورنہ مجھے بلانے کیسے ؟

حجاج : اس شہر میں کب آئے ؟

ابو اہل : حیب اس شہر کے تمام پائندے آئے۔

حجاج : آپ کو کتنا قرآن یاد ہے ؟

ابو اہل : اتنا کہ اگر اس پر عمل کروں تو میرے لیے کافی ہو !

حجاج : میں نے آپ کو اس لیے بلا یا ہے کہ آپ کو کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں۔

ابو اہل : کونسا عہدہ ؟

حجاج : سلسلہ (قبیلہ) کے

ابو اہل : یہ عہدہ ان لوگوں کے لیے موزوں ہے جو ذمہ داری کے ساتھ

اس کو سرانجام دے سکیں، اور میں اس کے لیے قطعاً موزوں نہیں۔

حجاج : نہیں آپ کو یہ عہدہ قبول کرنا پڑے گا۔

ابو اہل : اگر تم مجھے اس سے معاف رکھو تو بہتر ہے، اگر اصرار کرو گے تو

اسے قبول کروں گا مگر اپنے دل کی کیفیت بنا دینا چاہتا ہوں۔

حجاج : کہئے۔

الہو اٹل : میری حالت یہ ہے کہ میں تمہارا کوئی عہدہ دار نہیں، مگر جب تمہارا تصور آتا ہے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ جب عہدہ دار ہوں گا تو کیا حال ہوگا۔

حجاج : کیا سبب ؟

الہو اٹل : لوگ تم سے اس قدر خائف ہیں کہ اس سے قبل کسی امیر سے نہ ہونے ہوں گے۔

حجاج : (سنہس کر) اس کی وجہ یہ ہے کہ خوزیری میں کوئی شخص مجھ سے زیادہ جری نہیں۔ میں ایسے ایسے اہم کام کر گذرا ہوں کہ ان کا تصور کرتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے بھتے۔ اسی سختی کی وجہ سے میری مشکلیں آسان ہو گئیں۔ خیر! خدا آپ پر رحم کرے۔ اب آپ جا بیٹے، اگر کوئی اور موزوں آدمی نہ ملا تو آپ کو رحمتِ دوں گا۔

اوائل اٹھ کر چلے آئے اور پھر کبھی حجاج کے پاس نہ گئے۔

اوائل کو جہاد کا بہت شوق تھا۔ دنیا سے کوئی تعلق نہ تھا۔ رہنے کے لیے معمولی چھپر کا ایک جھونپڑا تھا جس میں وہ اور ان کا رفیق جہاد گھوڑا رہتا تھا۔ جہاد کو جاتے تو چھپر اٹھا دیتے واپس آتے تو پھر بنا لیتے۔

یزید بن ابی حبیب جو مصر کے ایک ممتاز حافظ حدیث تھے۔ ایک مرتبہ



بیمار پڑے۔ عبادت کے لیے امیر مصر حوثرہ بن سہیل حاضر خدمت ہوا۔  
اور کہنے لگا "حضرت ایک مسئلہ تو بتائیے۔"

"پوچھو کیا مسئلہ ہے" یزید نے دریافت کیا۔

"جس کپڑے میں مجھ کا خون لگا ہو، اس میں نماز ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟  
امیر مصر نے کہا۔

حضرت یزید بن ابی حبیب نے یہ سن کر منہ پھیر لیا اور گفتگو بند کر دی۔  
ان کی ناگواری خاطر کو محسوس کر کے حوثرہ اٹھ گیا۔ اس کو اکھٹے دیکھ کر یزید  
نے فرمایا۔

"روزانہ خلق خدا کا خون کرتے ہو اور مجھ سے مجھ کے خون کے متعلق مسئلہ  
پوچھتے ہو!"



## حق پسندی

(۱)

حضرت امیر معاویہؓ نے ضرار اسدی سے کہا  
"مجھ سے علیؓ کے اوصاف بیان کرو۔"

” امیر المؤمنین مجھے اس سے معاف فرمائیے۔ یہ مسئلہ بہت نازک ہے۔  
 آپ کے اور ان کے درمیان جنگ رہ چکی ہے۔ شاید آپ میرے بیان  
 کی تاب نہ لاسکیں۔“ ضرار اسدی نے جواب دیا۔  
 ” نہیں اس کا خیال نہ کرو وہ وقت گزر چکا۔ امیر معاذیہ نے اطمینان  
 دلاتے ہوئے فرمایا۔

اس پر ضرار اسدی نے کہنا شروع کیا :  
 ” اگر آپ کو اصرار ہے تو سنئے۔ وہ بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن  
 بات کہتے تھے۔ عادلانہ فیصلہ کرتے تھے۔ سراسر علم تھے۔ ہر بات سے علم  
 کا چشمہ پھوٹتا تھا۔ ان کے تمام اطراف سے حکمت ٹپکتی تھی۔ دنیا کی اور اس کی  
 دلفریبی سے وحشت کرتے اور رات اور رات کی وحشتناکی سے اس رکھتے  
 تھے۔ خدا کے خوف سے بڑے رولے والے اور بہت زیادہ غور و فکر  
 کرنے والے تھے۔ چھوٹا لباس اور موٹا جھوٹا کھانا پسند کرتے تھے ہم میں  
 بالکل ہماری ہی طرح رہتے تھے۔ جب ہم ان سے سوال کرتے تو  
 وہ جواب دیتے۔ جب ان سے انتظار کو کہتے تو ہمارا انتظار کرتے وہ ہم سے  
 مساویانہ سادگ کرتے۔ مگر ان کی ہیبت کے باعث ہم ان سے گفتگو نہیں  
 کر سکتے تھے۔ وہ اہل دین کی عزت کرتے۔ غریبوں کو مقرب بناتے۔ قوی  
 کو ناحق میں حرم و طمع کا موقع نہیں دیتے تھے اور کمزور کو انصاف سے

ناامید نہیں ہونے دیتے تھے۔

”میں نے ان کو عین معرکہ جنگ کے زمانے میں دیکھا ہے کہ رات گزر چکی ہے ستارے ڈوب رہے ہیں اور وہ اپنی ڈاڑھی پکڑے ہوئے مارگریڈ کی طرح مضطرب اور خمزدہ آدمی کی طرح بے قرار ہیں اور کہہ رہے ہیں اے دنیا مجھ کو فریب نہ دے۔ دوسرے کو دے۔ اے دنیا تو مجھ سے چھڑ جھاڑ کرتی ہے میری طرف لپک لپک کے آتی ہے، حالانکہ میں تجھے تین طلاق دے چکا ہوں اور اب رجعت ناممکن ہے۔ اسے دنیا تیری عمر کم اور تیرا مقصد حقیر ہے۔ آہ زاد راہ کم، سفر دراز اور راستہ رحمت خیز ہے۔“

”خدا ابوالحسن پر رحم فرمائے۔ خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔“ امیر معاویہ نے رو کر کہا۔

(۱۲)

حضرت معاویہؓ و ربیعہ لکائے بیٹھے تھے۔ اتفاق سے حضرت ابو مریم ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے مگر اس وقت معاویہؓ کسی اور ہی عالم میں تھے ان کو ابو مریم کا آنا ناگوار ہوا۔

”ابو مریم، اس وقت تمہارے آنے سے ہمیں کچھ خوشی نہیں ہوئی حضرت معاویہ نے صاف گوئی سے کہا۔

ابو مریم نے یہ سن کر کہا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

اللہ تعالیٰ جس شخص کو مسلمانوں کا والی بنائے۔ اگر وہ ان کی حاجتوں سے  
 آنکھ بند کر کے پردے میں بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن  
 اس کی حاجتوں کے سامنے پردہ ڈال دے گا۔  
 حضرت معاویہؓ یہ سن کر لرزائے اٹھے اور اسی وقت حکم دیا کہ ایک آدمی مقرر کر دیا  
 جائے جو لوگوں کی حاجتوں کو ان تک پہنچائے۔

(۳)

حضرت سعید بن جبیر ایک ممتاز تابعی تھے جب قیس بن اشعث نے  
 حجاج بن یوسف کے مظالم سے خلق خدا کو نجات دلانے کے لیے تلوار ہاتھ  
 میں لی تو سعید بن جبیر نے بھی ان کا ساتھ دیا لیکن ابن اشعث نے شکست  
 کھائی اور سعید بن جبیر مکہ چلے گئے۔ مکہ کے والی خالد بن عبداللہ قشیری نے  
 ان کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھجوا دیا۔ وہ پہلے ہی ان کے خلاف غصے میں  
 بھرا بیٹھا تھا۔ دیکھتے ہی کھڑک اٹھا اور بولا :

حجاج : تمہارا نام ؟

سعید : سعید بن جبیر

حجاج : نہیں بلکہ شقی بن کسیر

سعید : میری ماں تم سے زیادہ میرے نام سے واقف تھی۔

حجاج : تمہاری ماں بھی شقی تھی اور تم بھی شقی۔

سعید: غیب کا علم خدا کے سوا کس کو ہے؟  
 حجاج: میں تمہاری دنیا کو بھڑکتی ہوئی آگ سے بدل دوں گا۔  
 سعید: اگر تجھ کو یہ یقین ہوتا کہ یہ تمہارے اختیار میں ہے تو میں تمہیں اپنا معبود بنا لیتا۔

حجاج: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟  
 سعید: امام ہدایت اور نبی رحمت تھے۔  
 حجاج: اور علیؓ اور عثمانؓ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے وہ جنت میں ہیں یا جہنم میں؟

سعید: میں ان کا وکیل نہیں ہوں۔  
 حجاج: ان میں سے تم کس کو زیادہ پسند کرتے ہو؟  
 سعید: جو میرے خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ تھا!  
 حجاج: خدا کے نزدیک کون سب سے زیادہ پسندیدہ تھا؟  
 سعید: اس کا علم خدا ہی کو ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔  
 حجاج: امیر المومنین عبد الملک کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟  
 سعید: تم ایسے شخص کے متعلق مجھ سے کیا پوچھتے ہو جس کے گناہوں میں سے ایک گناہ تمہارا وجود ہے۔

حجاج: تم ہنستے کیوں نہیں؟

سعید : وہ کس طرح سنس سکتا ہے جو مٹی سے پیدا ہوا اور مٹی کو آگ کھا جاتی ہے۔  
 حجاج : پھر ہم لوگ تفریحی مشاغل سے کیوں سنتے ہیں۔  
 سعید : سب کے دل یکساں نہیں ہوتے۔

بالآخر حجاج نے بگڑ کر حکم دیا کہ ان کی گردن مار دی جائے اور پوچھا :  
 "بتاؤ تم کس طرح قتل کیا جانا پسند کرتے ہو۔"  
 سعید : جس طرح تم آخرت میں قتل ہونا پسند کرتے ہو۔  
 حجاج : کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں ؟  
 سعید : تم معاف کرنے والے کون ہو۔ معاف تو اللہ ہی کرتا ہے۔

حجاج : تو پھر میں تم کو قتل ہی کروں گا۔

سعید : اللہ تعالیٰ نے میری موت کا جو وقت مقرر کیا ہے اگر وہ آگیا ہے تو اس سے  
 مقرر نہیں وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اور زندہ رہنا مقدر ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے  
 اختیار میں ہے۔

حجاج نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ جب قتل میں پہنچے تو ان کے لہجے  
 پر سنسی بھئی۔ حجاج کو معلوم ہوا تو اس نے واپس بلا لیا اور پوچھا تم کس پالت پر  
 سنس رہتے تھے ؟

سعید : خدا کے مقابلے میں تمہاری جراتوں پر اور تمہارے معاملے میں خدا کے علم پر۔  
 حجاج نے اپنے سامنے ہی قتل کا چمڑا بچھانے کا حکم دیا۔

حضرت سعید بن جبیر نے کلمہ شہادت پڑھا اور دعا کی کہ اے العالمین میرے قتل کے بعد حجاج کو کسی کے قتل پر قادر نہ کرنا۔ جلاد کی شمشیر فضا میں لہرائی اور حضرت سعید کا سر تن سے جدا تھا۔ سر زمین پر گرا تو زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نکلا۔ !

چند روز کے بعد حجاج دماغی امراض میں مبتلا ہو گیا اور پھر اس کو قدرت نہ ہوئی کہ کسی کو قتل کرائے۔ اس پر بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے۔ اور بے ہوشی کے عالم میں اسے حضرت سعید بن جبیر پوچھتے ہوئے نظر آتے تھے کہ دشمن خدا تو نے مجھے کس جرم میں قتل کیا؟

(۴)

حضرت سعید بن مسیب ایک علیل القدر صاحب فضل و کمال تابعی تھے۔ حضرت عبد اللہ بن زبیر نے جب مکہ معظمہ میں خلافت کا اعلان کیا تو جابر بن اسود کو بھیجا کہ اہل مدینہ کی بیعت لے۔ جابر بن اسود کے چار بیویاں تھیں اس نے ایک کو طلاق دی اور عدت پوری ہونے سے پہلے پانچویں شادی کر لی جو شرعاً ناجائز ہے۔ حضرت سعید نے جابر بن اسود سے بیعت کے مطالبے کیے جو اب میں کہا کہ جب تک تمام مسلمانوں کا کسی ایک شخص پر اتفاق نہ ہو جائے میں کسی کی بیعت نہیں کروں گا۔ علاوہ ازیں تمہارے ہاتھ پر بیعت کس طرح کر سکتا ہوں جس نے عدت پوری ہونے سے پہلے پانچویں شادی کر لی۔

جابر بن اسود کو طیش آگیا اور کورڑوں سے پٹوانے کا حکم دیا۔  
 حضرت سعید بن مسیب کے بدن پر کورڑے برس رہے تھے مگر ان کی  
 زبان اعلان حق میں مصروف تھی وہ کہہ رہے تھے :  
 " کتاب اللہ کا حکم سنانے سے مجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ  
 کا ارشاد ہے۔ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع  
 اور تو نے جو بھتی کی موجودگی میں یا پنجویں عورت سے شادی کر لی جو تیرے دل  
 میں آئے کر گذر۔"

## اطاعت کے حدود

یزید بن عبد الملک (اموی خلیفہ) کے زمانے میں خراسان و عراق کے  
 گورنر عمر بن ابیہرہ نے اکابر علماء کو بلا کر بطور استفتاء سوال کیا۔ "یزید خدا کا  
 خلیفہ ہے میں اس کا والی ہوں، اس کی اطاعت خدا کی طرف سے مجھ پر واجب  
 ہے وہ ہمارے پاس اپنے احکام بھیجتا ہے۔ میں تعمیل کرتا ہوں۔ اس صورت  
 میں آپ کی کیا رائے ہے۔" مجھ پر عند اللہ اس کے غیب و صواب کی ذمہ داری  
 ہے یا نہیں؟"



حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے انہوں نے جواب دیا :  
 ”الین ہبیرہ یزید کے بارے میں خدا سے ڈرا اور خدا کے معاملے میں یزید  
 سے نہ ڈر۔ خدا تجھ کو یزید سے بچا سکتا ہے۔ مگر یزید تجھ کو خدا سے نہیں  
 بچا سکتا۔ وہ زمانہ قریب ہے کہ خدا تیرے پاس الیسا فرشتہ بھیجے گا جو تجھے  
 تخت حکومت سے اتار کر اور قصر امارت سے نکال کر قبر کی تنگی میں ڈال دے گا۔  
 اس وقت تیرے نیک اعمال کے سوا کوئی شے تجھے نہ بچا سکے گی۔ خدا نے  
 بادشاہ اور حکومت کو اپنے دین کی حمایت اور اپنے بندوں کی خدمت کے لیے  
 بنایا ہے۔ خدا کی دی ہوئی حکومت اور اقتدار کے ذریعے خدا کے بندوں پر سوار  
 نہ ہو جاؤ۔ خدا کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرمانبرداری جائز نہیں۔“

## کلمہ حق

حضرت سعید بن مسیب ایک مرتبہ بازار میں بیٹھے تھے۔ مطلب بن سائب  
 ان کے ساتھ تھے۔ اتنے میں بنی مروان (بنو امیہ) کا ہرکارہ ادھر سے گذرا۔  
 سعید نے پوچھا :  
 ”تم بنی مروان کے ہرکارے ہو؟“

سہراکار : جی ہاں !

سعید : تم نے انہیں کس حال میں چھوڑا

سہراکارہ : اچھے حال میں۔ عیش کر رہے ہیں۔

سعید : تم اسے اچھا حال کہتے ہو۔ وہ انسانوں کو بھوکا رکھتے ہیں اور کتوں کا پیٹا بھرتے ہیں۔

سہراکارہ غصے میں بھر گیا۔ مطلب بن سائب نے اسے سمجھا بچھا کر رخصت کیا اور حضرت سعید سے کہا "خدا آپ کی معفرت کرے۔ سرکاری آدمیوں سے اس طرح کی صاف گوئی نہ کیا کیجیے۔ ایسا نہ ہو جان کے لالے پڑ جائیں۔"

سعید : بے وقوف آدمی خاموش رہو۔ خدا کی قسم حیات تک میں خدا کے حقوق کی حفاظت کرتا ہوں اس وقت تک وہ مجھے ان ظالموں کے قبضے میں نہیں دے گا۔

## ○ حجرات و بے باکی

حضرت سلیمان بن مہران جو اعمش کے لقب سے مشہور ہیں۔ عجمی النسل تھے۔ دہلیم کے معرکے میں گرفتار ہوئے۔ ان کے مالک نے ان کو آزاد کر دیا اور وہ کوڈ کے مرکز علوم میں پہنچ کر تحصیل علم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسلام کے فیضانے

اس غلام کو مسلمانوں کا پیشوا اور امام بنا دیا۔ دولتِ علم سے بہرہ مند ہو کر دولتِ دنیا سے لے نیاز ہو گئے۔ کہتے ہیں ان کی معاش نہایت تنگ تھی مگر ان کی مجلس میں امراؤ سلاطین، فقیر معلوم ہوتے تھے۔

نشہ توحید سے ایسے سرشار تھے کہ حق کے معاملے میں کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ ایک مرتبہ بنی امیہ کے حلیل القدر حلیفہ شہام نے ان کو لکھا کہ میرے لیے علیؑ کی برائیاں اور عثمانؓ کے فضائل قلم بند کر دیجیے۔ جب بادشاہ کا خط اس "فقیر" کے پاس پہنچا تو اس نے خط کر پڑھ کر فائدہ کے سامنے ہی بکری کو کھلا دیا اور کہا "یہ تمہاری تحریر کا جواب ہے" جب فائدہ نے جواب پر زیادہ اصرار کیا تو لکھا:

"بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اے بعد اگر عثمانؓ کی ذات میں ساری دنیا کے انسانوں کی خوبیاں جمع ہوں تب بھی تمہاری ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا اور اگر علیؑ کی ذات میں دنیا بھر کی برائیاں موجود ہوں تو اس سے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تم کو تو اپنے نفس کی خبر رکھنی چاہیے"۔  
یہ تھا جواب ایک فقیر لے لیا کا ایک بادشاہ ہفت کشور کو۔

## بے نیازی و استغناء

ارباب افتداری کے عطیات بہت بڑا فتنہ ہیں۔ یہ قوموں کے اخلاق کو گھن کی طرح کھا جاتے۔ زبان حق کو گنگ کرتے اور ملت کے حوصلوں کو لپٹ کرتے ہیں۔ اسلامی زندگی ان عطیات کے ساتھ میل نہیں کھاتی اور ارباب صلاح و تقویٰ ان سے ہمیشہ اجتناب کرتے تھے اور یہاں تک احتیاط برتتے تھے، کہ عوام کے لیے سب سے بڑا حوازا حاصل کرنے کا شائبہ امکان بھی نہ رہے۔

حضرت طاؤس بن کعبان ابتدا میں غلام تھے۔ مگر اسلام نے ان کو آزاد کیا اور علم و فضل نے مسلمانوں کا امام بنا دیا تھا۔ یمن کے ایک شہر میں بودوباش رکھتے تھے۔ امراء و سلاطین کا احسان اٹھانا قطعاً گوارا نہیں تھا کہ یہ انسانی ضمیر کو کجا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ وہب بن منبہ کے ہمراہ حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف کے یہاں گئے۔ اس وقت سردی زیادہ تھی۔ محمد بن یوسف نے ان کے اوپر ایک چادر ڈلوادی۔ لیکن انھوں نے کندھے ہلا کر چادر کو بدن پر گرا دیا۔ محمد بن یوسف آخر حجاج کا بھائی تھا۔ ان کی اس حرکت پر سخت برہم ہوا۔ لیکن انھوں نے اس کی برہمی کی مطلق پروا نہ کی۔ یہاں سے اٹھے تو وہب بن منبہ نے ان سے کہا :

” آپ نے غضب کیا۔ اگر آپ کو چادر کی ضرورت نہیں تھی تو محمد بن یوسف کے غصے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اس وقت چادر کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ چاہے بعد میں بیچ کر مساکین میں قیمت تقسیم کر دیتے۔“

حضرت طاؤس نے جواب دیا :

” تم ٹھیک کہتے ہو۔ بات بالکل معمولی تھی۔ لیکن تم جانتے ہو اگر میں اس وقت چادر کو قبول کر لیتا تو لوگ میرے اس فعل کو سند جو از بنا لیتے۔“

(۲)

خلیفہ سلیمان بن عبد الملک مدینہ آیا اور حضرت عمر بن عبد العزیز کو روزِ مدینہ کے ہمراہ مسجد نبوی میں نمازِ ظہر پڑھنے گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر قصورہ کا دروازہ کھولا تو اس میں حضرت صفوان بن سلیم زبیری نظر آئے جو ایک ممتاز تابعی تھے۔ سلیمان نے عمر بن عبد العزیز سے پوچھا۔

” یہ کون بزرگ ہیں میں نے ان کے لیشرے سے بہتر آثار نہیں دیکھے۔“

” امیر المومنین یہ صفوان بن سلیم ہیں۔ عمر بن عبد العزیز نے بتایا۔“

” پانسو دینار کی ایک بھٹیلی جا کر ان کی خدمت میں پیش کرو۔ امیر المومنین نے

اپنے غلام کو حکم دیا۔ غلام نے فوراً تعمیل ارشاد کی اور حضرت صفوان کے

قریب جا کر کہا ”یہ بھٹیلی امیر المومنین کی جانب سے آپ کے تدر ہے۔“

یہاں مسجد میں موجود ہیں۔

”میاں تمہیں دھوکا ہوا ہے۔ کسی اور کے پاس بھی ہوگی۔“ حضرت صفوان نے غلام سے فرمایا:

”کیا آپ صفوان نہیں ہیں؟ غلام نے ان کو یقین دلانے کے لیے پوچھا۔  
 ”ہوں تو میں ہی صفوان۔ مگر تم جا کر دوبارہ پوچھ آؤ۔“ حضرت صفوان نے کہا۔ جو نہی غلام مرّا صفوان جو تا اٹھا کر مسجد سے نکل گئے اور پھر جتنی دیر سلیمان مسجد میں رہا وہ مسجد سے غائب رہے۔ غلام ان کی تلاش کر کے مایوس ہو کر چلا گیا۔

(۳)

سلاطین و اہل راسخے استغنا اسلامی زندگی کی روح ہے، جو اللہ کا ہونا ہے پھر نہ کوئی طاقت اسے دیا سکتی ہے اور نہ کوئی لالچ اسے بہکا سکتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب نے کئی اموی خلفاء کا زمانہ پایا۔ مگر ان کے سامنے سر نیاز خم کرنا تو درکنار ان کو لائق الثقات بھی نہ سمجھا۔  
 خلیفہ عبد الملک ایک مرتبہ مدینہ آیا اور اس نے حضرت سعید بن مسیب سے ملنا چاہا۔ وہ مسجد نبوی میں مصروف عبادت تھے۔ عبد الملک نے دروازے پر کھڑے ہو کر آدمی کو بھیجا کہ بلا لائے، اس نے آکر کہا:  
 ”امیر المؤمنین آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔“  
 سعید: امیر المؤمنین کو نہ مجھ سے کوئی ضرورت اور نہ مجھے ان سے۔ اگر ان کی

کوئی ضرورت ہو بھی تو وہ پوری نہیں ہو سکتی۔

عبدالملک نے یہ جواب سن کر دوبارہ آدمی بھیجا اور اس کو پھر وہی جواب ملا۔ آدمی نے کہا "تم عجیب آدمی ہو کہ امیر المومنین بار بار بلا بھیجتے ہیں تم اس طرح کا خشک جواب دیتے ہو۔ اگر امیر المومنین نے منع نہ کر دیا ہوتا تو میں تمہارا سر کاٹ کر لے جاتا۔"

حضرت سعید نے بے پروائی سے جواب دیا۔ "اگر امیر المومنین مجھے کوئی خطیبہ دینا چاہتے ہیں تو وہ میں تمہیں بخشتا ہوں، جا کر حاصل کر لو۔ اور اگر کچھ اور ارادہ ہے تو خدا کی قسم میں اپنی نشست اس وقت تک نہیں بدلوں گا جب تک وہ جو کرنا چاہتے ہیں نہ گزریں۔"

عبدالملک یہ جواب سن کر حلا گیا۔

(۴)

اموی خلیفہ عبدالملک کی اہم سندھ سے مراکش کے ساحل تک دینا تھی اپنے عہد کا سب سے زیادہ باجبروت بادشاہ تھا۔ مگر سعید بن مسریب کے متعلق سن چکے کہ وہ اسے خاطر میں نہ لاتے تھے۔

ایک مرتبہ خلیفہ مدینہ آیا ہوا تھا۔ کسی وجہ سے ایک رات اسے نیند نہ آئی۔ اس نے دربان کو حکم دیا کہ مسجد میں جا کر دعا پڑھو۔ اگر مدینہ کا کوئی قصہ نروان مل جائے تو لے آؤ کہ ذرا حوصلہ پہلے۔ حاجب مسجد نبوی میں آیا۔ ایسے نادقت

یہاں کون ملتا۔ حضرت سعید بن مسیب ذکرِ الہی میں مصروف تھے۔ اس نے اشارے سے اپنی طرف متوجہ کیا۔

سعید: اپنی ضرورت بیان کرو۔ تم کیا چاہتے ہو؟  
حاجب: امیر المؤمنین کی آنکھ کھل گئی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ کسی قصہ خوان کیلے آؤں۔ اس لیے میرے ہمراہ چلو۔

سعید: مجھے بلوایا ہے کیا؟

حاجب: نہیں۔ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جا کر دیکھو اگر مدینہ کا کوئی قصہ خواں ہو تو لے آؤ۔ میں نے تمہیں دیکھا کہ جاگ رہے ہو۔ اس لیے تمہیں ہی لے چلنا پڑا۔  
سعید: امیر المؤمنین سے جا کر کہہ دو میں ان کا قصہ خواں نہیں ہوں۔  
حاجب نے عبدالملک کو جا کر بتایا کہ ایک آدمی مسجد میں ملا تھا مگر وہ کوئی دیوانہ سا تھا۔ اس نے یہ جواب دیا۔ عبدالملک نے کہا وہ سعید بن مسیب ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔



## استقلال و استقامت

(۱)  
نوامیہ کے خلفاء کا قاعدہ تھا کہ وہ اپنی زندگی ہی میں دو دوی عہد



بنادیتے تھے اور مسلمانوں سے ان کی بیعت لیتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب کی رائے تھی کہ خلیفہ کی زندگی میں کسی اور کی بیعت درست نہیں۔ ہشام بن اسماعیل والی مدینہ نے اہل مدینہ سے بیعت لیتے کے بعد حضرت سعید بن مسیب کو بلا دیا۔

سعید : مجھے بلا نے کی غرض کیا ہے ؟

ہشام : میں آپ سے ولید اور سلیمان کی بیعت لینا چاہتا ہوں جن کو امیر المومنین نے اپنا ولی عہد مقرر کیا ہے۔

سعید : مگر امیر المومنین عبد الملک کی موجودگی میں کسی دوسرے کی بیعت کے کیا معنی ؟

ہشام : آپ کو بیعت کرنی ہوگی۔

سعید : جس بات کو میں درست نہیں سمجھتا اس پر عمل کس طرح کر سکتا ہوں۔ ہشام نے یہ سن کر ان کو کورڈوں سے پٹوایا، اور پھر حکم دیا کہ لشکر کو اتے ہوئے راس الثنیہ لے جایا جائے جہاں مجرموں کو سولی دی جاتی تھی حضرت سعید بن مسیب سولی پانے کے لیے تیار ہو گئے اور سولی کے وقت ستر کھل جانے کے خیال سے جانگھیا پہن لیا۔

ہشام نے ان کے استقلال و استقامت کو دیکھا تو واپس لا کر قید کرنے کا

حکم دے دیا۔ حیب ان کو سپاہی واپس لے چلا تو انھوں نے پوچھا : اب

والس کہاں لیے جاتے ہو سنا پیوں نے کہا "قید خانے۔"  
 عبدالملک کو معلوم ہوا تو اس نے شام کو ملامت کا خط لکھوایا اور حکم دیا  
 کہ سعید بن مسیب سے تعرض نہ کرو۔ وہ ان لوگوں میں نہیں ہیں جن سے  
 فتنہ انگیزی اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا خطرہ ہو۔  
 شام شرمندہ ہوا اور رہا کر دیا۔ حضرت سعید بن مسیب نے عبدالملک  
 کا معذرت نامہ پڑھا تو کہا "بہر حال جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اس کے اور میرے  
 درمیان حذاب ہے وہ خوب واقف ہے۔"

(۲)

حضرت سعید بن مسیب ولید بن عبدالملک کے عہد میں بیمار پڑے اور  
 ۱۲ھ میں انتقال کیا۔ جب مرض الموت میں غشی طاری ہوئی تو نافع بن جبر  
 نے ان کا بستر قبلہ رخ کر دیا۔ ہوش میں آئے تو فرمایا اس سے کیا حاصل ہے؟  
 "اگر میں مسلمان ہوں تو خواہ کسی سمت مروں میرا رخ قبلہ ہی کی جانب ہوگا  
 اور اگر ملت اسلام پر نہیں ہوں اور دل قبلہ کی جانب نہیں ہے تو پھر رخ کو  
 قبلہ کی طرف پھیرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں بجز اللہ مسلمان ہوں جس سمت  
 بھی رخ ہو قبلہ ہی کی طرف ہوگا۔"

○

## سلاطین سے اجتناب

امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: "فقہاء (علمائین) انبیاء و رسل کے امین ہیں، جب تک کہ وہ سلاطین و امراء کی آستان بوسی نہ کریں۔ جب وہ بھی آستان بوسی کا شیوہ اختیار کر لیں تو وہ انبیاء و رسل کی امانت کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ نیز فرماتے جب تمہارے پاس سلطان وقت یا کسی اور حاکم کا کوئی حکم پہنچے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ زیادہ پڑھو، یہ کسادگی کی کنجی ہے۔"

## نصرت الہی

نبی عباس کے باہر ویتا خبابہ نے والی بغداد کو حکم دیا کہ فقہاء و محدثین کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ سوال کرو کہ وہ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں یا غیر مخلوق جو مخلوق مان لیں ان کو چھوڑ دو اور جو نہ مانیں ان کو پابجولال میرے پاس بھیج دو تاکہ میں ان کی گردن مار دوں۔

اسحاق بن ابراہیم والی بغداد نے اس فرمانِ شاہی پر عمل کیا اور بغداد کے فقہاء و محدثین کو اپنے سامنے جمع کیا۔ چار کے سوا سب نے سرکاری عقیدے کو مان لیا۔ ان چاروں کے پاؤں میں یسٹریاں ڈال دی گئیں اور قید کر دیا گیا۔ صبح ہوئی تو ان میں سے ایک اور ٹوٹ گیا۔ دوسرے روز ایک اور شاہی دھکیوں کی تاب نہ لاسکا۔ اور اس نے بھی حکومت کے جبر کے سامنے سر جھکا دیا۔ اب صرف ابن نوح اور احمد بن حنبل باقی رہ گئے۔ ان کو پابجولاں طرسوس روانہ کر دیا گیا۔ راہ میں ابن نوح نے انتقال کیا اور صرف احمد بن حنبل طرسوس پہنچے مگر خدا کی قدرت کہ ان کے پہنچنے سے قبل مامون کی اپنی اہل آگئی۔

## حق گوئی

ہشام بن عبدالملک ولی عہدی کے زمانے میں عمائد شام کے ساتھ حج کو گیا۔ بیت المقدس کا طواف کرنے کے بعد حجرِ اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھا تو، ہجوم اتنا تھا کہ انتہائی کوشش کے باوجود نہ پہنچ سکا اور مجبور ہو کر رک گیا۔ اور بھڑکے کم ہونے کا انتظار کرنے کے لیے کچھ

فاصلے پر کرسی بچھا کر بیٹھ گیا۔

اتنے میں امام زین العابدین آئے اور طوائف کے لہجہ جگر اسود کو  
بوسہ دینے کے لیے بڑھے۔ ہجوم نے ان کو دیکھا تو اس طرح چھٹ گیا  
گویا بادل تھا جو آفتاب کی کرنوں سے چھٹ گیا۔ حضرت امام اطمینان سے  
آگے بڑھے اور جگر اسود کو بوسہ دیا۔ اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ کر ایک  
شامی سردار نے ہشام سے پوچھا یہ کون شخص ہے جو دلیں پر یوں حکومت  
کر رہا ہے؟

ہشام نے انجان بن کر کہا " میں نہیں جانتا۔  
فرزوق شاعر اتفاق سے وہاں موجود تھا اس نے ہشام کا یہ تجاہل عارفانہ  
دیکھا تو لپکا راٹھا " میں ان کو جانتا ہوں۔  
" یہ کون ہیں؟ شامی نے پوچھا۔

فرزوق نے وہیں ارجحاً ایک پرزور قصیدہ مدحیہ امام زین العابدین  
کی شان میں پڑھ دیا۔

هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ الْبَطْحَاوِطُ  
وَالْبَيْتَ يَعْلَمُ وَالْحُلَّ وَالْحَرَمَ  
هَذَا ابْنُ خَيْرِ عِبَادِ اللَّهِ كُلِّهِمْ  
هَذَا التَّقِيُّ التَّقِيُّ الطَّاهِرُ الْعَمِيرُ  
إِذَا رَأَتْهُ قُرَيْشٌ قَالَ قَائِلُهَا  
إِلَى مَكَارِمِ هَذَا أَمْتَحَى الْكَرِيمِ  
وَأَيْسَ فَوْلَاكَ هَذَا ابْصَا تَرَةً  
العَرَبُ تَعْرِفُ أَنْ تَكْرَمَتْ وَالْعَجْمُ

ما قال لا قط الا في تشهد لا  
 يكاد يمسك عرفان راحته  
 مقدم بعد ذكر الله ذكرهم  
 لغضى حياء ولغضى من مهاتيه  
 هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله  
 بجد انبياء الله قد ختم

یہ وہ شخص ہے جس کو بطحا کی سرزمین جاتی ہے۔ بیت اللہ جانتا ہے

اور حرم جانتا ہے اور ساری دنیا اس سے واقف ہے۔

یہ اس کا فرزند گرامی ہے جو تمام بندگان الہی میں بہتر تھا۔

یہ پرہیزگار پاکیزہ نیک اور بزرگ ہے۔ جب قریش اس کو دیکھتے ہیں

تو کہتے ہیں یہ وہ ہے جس کی شرافت پر شرافت کامل ہو گئی۔

تیرا یہ کہنا کہ میں اسے نہیں جانتا اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر

تو نہیں جانتا تو عجم اور عرب تو خوب جانتا ہے۔

یہ ایسا سخی ہے کہ کلمہ شہادت کے سوا اس نے لفظ لا (نہیں) کبھی

نہیں کہا۔ اگر تشہد نہ ہوتا تو وہ لا کی بجائے کبھی نعم (ہاں) ہی کہتا۔

جب وہ رکن حطیم کی طرف بوسہ دینے آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود حطیم

بڑھ کر اس سے مل جائے گا۔ یہ اس خاندان میں سے ہے جن کا ذکر ہر معاند

ہیں اللہ کے بعد ہوتا ہے اور بات الہی کی مدح پر اگر ختم ہوتی ہے اس کے لحاظ

اور ہیبت کی وجہ سے کوئی اس کے سامنے بات نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہے  
تو اس وقت حیب وہ مسکراتا ہے۔

یہ فاطمہ کا پوتا ہے اگر تو نہیں جانتا تو سن کہ اس کے نانا پر اللہ کے نبیوں کا  
سلسلہ بند ہو گیا۔

بنو امیہ کو آل علی و حسین رضی اللہ عنہما سے جو بغض و عناد تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے  
فرزوق کی یہ لے باکی موت سے کھیلنے کے مرادف تھی۔ مگر ہمارے اسلاف  
تلوار کی دھار پر بھی حق بات کہنے کے عادی تھے۔ فرزوق نے یہ قصیدہ  
اس جوش سے پڑھا کہ سب طرف سناٹا چھا گیا۔ شہام بھی دم بخود سنتا رہا  
اس وقت تو کچھ نہ کہا مگر بعد میں فرزوق کو قید کر دیا۔

امام زین العابدینؑ نے حسن قبول کے طور پر فرزوق کو ۱۲ ہزار درہم عطا  
فرمائے مگر اس نے یہ کہہ کر واپس کر دئے کہ میں نے خدا و رسول کی خوشنودی  
کے لیے مدح کی تھی۔ انعام کی طمع میں نہیں۔ اگر انعام کا طلبگار ہوتا تو شہام  
کی طرح سسائی کرتا۔

امام نے خطیبہ پھر اس پیغام کے ساتھ واپس بھجوا دیا کہ تم اہل بیت حیب  
کسی کو کچھ دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیت سے  
واقف ہے اس کا اجر علیحدہ دے گا۔

ارشاد کی تمہیل میں فرزوق نے خطیبہ لے لیا۔

# خواتین کیلئے اہم نول تحفے

۲/۸/-	سیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا	۲/۸/-	سیرت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا	۲/۸/-	افشاں	۳/۸/-	زخمی روہیں	۳/۸/-	کینز	۱/۸/-	اسلام اور ضبط و ولادت	۲/۸/-	دعوت اسلامی میں خواتین کی حصہ	۲/۸/-	مسلیم خواتین سے اسلام کے مطالبات	۲/۸/-	پاکستانی عورتوں کو رہنے پر	۲/۸/-	دین کی باتیں	۲/۸/-	آپ کیا کریں؟
۲/۸/-	سیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا	۲/۸/-	سیرت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا	۲/۸/-	افشاں	۳/۸/-	زخمی روہیں	۳/۸/-	کینز	۱/۸/-	اسلام اور ضبط و ولادت	۲/۸/-	دعوت اسلامی میں خواتین کی حصہ	۲/۸/-	مسلیم خواتین سے اسلام کے مطالبات	۲/۸/-	پاکستانی عورتوں کو رہنے پر	۲/۸/-	دین کی باتیں	۲/۸/-	آپ کیا کریں؟
۲/۸/-	سیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا	۲/۸/-	سیرت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا	۲/۸/-	افشاں	۳/۸/-	زخمی روہیں	۳/۸/-	کینز	۱/۸/-	اسلام اور ضبط و ولادت	۲/۸/-	دعوت اسلامی میں خواتین کی حصہ	۲/۸/-	مسلیم خواتین سے اسلام کے مطالبات	۲/۸/-	پاکستانی عورتوں کو رہنے پر	۲/۸/-	دین کی باتیں	۲/۸/-	آپ کیا کریں؟
۲/۸/-	سیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا	۲/۸/-	سیرت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا	۲/۸/-	افشاں	۳/۸/-	زخمی روہیں	۳/۸/-	کینز	۱/۸/-	اسلام اور ضبط و ولادت	۲/۸/-	دعوت اسلامی میں خواتین کی حصہ	۲/۸/-	مسلیم خواتین سے اسلام کے مطالبات	۲/۸/-	پاکستانی عورتوں کو رہنے پر	۲/۸/-	دین کی باتیں	۲/۸/-	آپ کیا کریں؟
۲/۸/-	سیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا	۲/۸/-	سیرت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا	۲/۸/-	افشاں	۳/۸/-	زخمی روہیں	۳/۸/-	کینز	۱/۸/-	اسلام اور ضبط و ولادت	۲/۸/-	دعوت اسلامی میں خواتین کی حصہ	۲/۸/-	مسلیم خواتین سے اسلام کے مطالبات	۲/۸/-	پاکستانی عورتوں کو رہنے پر	۲/۸/-	دین کی باتیں	۲/۸/-	آپ کیا کریں؟

## اصلاحی چاروں کاسٹ

۱/۲/-	بچوں کی تربیت	۱/۲/-	منافع کی پہچان	۱/۲/-	غیبت اور بدزبانی
۱/۲/-	والدین کے حقوق	۱/۲/-	حسن اخلاق	۱/۲/-	پڑوسیوں کے حقوق
۱/۲/-	نویاتوں کا حکم	۱/۲/-	پرودہ کے احکام	۱/۲/-	عورتوں کے حقوق
۱/۲/-	ستر کے حدود	۱/۲/-	معیاری بیوی	۱/۲/-	ناپسندیدہ عورت

ادارہ خواتین - اچھڑ لاہور



# اسلاف زندگی

از

نصر اللہ خاں عزیز

مدیر ایشیا لاہور

طالب

ادارہ خوانین، اچھر، لاہور